

عورت ، گوهر ہستی

مصنف

آیت اللہ سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ

مترجم

سید صادق رضا تقوی

پہلا باب : مغرب اور خواتین

دریچہ

پہلی فصل: خواتین اور گھرانے کے بارے میں مغرب کا افراط و تفریط

مغربی ادب میں عورت کی مظلومیت!

یورپی عورت کی آزادی کے مغرضانہ مادّی عوامل

جلتا ہوا مغربی معاشرہ!

دوسری فصل: جاپانہ تمدن و ثقافت کے خطرات و نتائج

حقوق نسواں ، موجودہ دنیا کا گھمبیر اور حل نشدہ مسئلہ

دنیا میں خاندانی بحران کی اصل وجہ

مرد و عورت کی کثیر المقدار مشکلات کا علاج

یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد

مغربی عورت کی حالت زار

حقوق نسواں کے بارے میں استکبار کی غلطی

مغربی عورت ، مرد کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ

اسلام میں خواتین کی فعالیت اور ملازمت

خواتین کو ہماری دعوت!

دوسرا باب: خواتین کے مسائل اور حقوق کے بارے میں اسلام کی عادلانہ نظر

دریچہ

پہلی فصل: عورت عالم ہستی کا اہم ترین عنصر

عورت ، عالم خلقت کے اہم ترین امور کی ذمہ دار

خواتین مرد کے شانہ بشانہ بلکہ اُن سے بھی آگے

خاندان میں عورت کا حق!

دوسری فصل: اسلام اور حجاب

مرد اور عورت کی ”درمیانی حد“ پر اسلام کی تاکید

حجاب و پردے میں اسلام کی سنجیدگی

اسلامی انقلاب اور حقوق نسواں

مغربی اور مغرب زدہ معاشرے میں خواتین کی صورتحال

خواتین ، معاشرہ اور حجاب

اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی ترقی

تیسری فصل: خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر

خواتین کے بارے میں تین قسم کی گفتگو اور اُن کے اثرات

الف: خواتین کی تعریف و ستائش کی گفتگو

ب: خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کی وضاحت

ج: معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کی مشکلات

کون سی گفتگو اہم ہے؟

چوتھی فصل: خواتین سے متعلق صحیح اور غلط نظریات

جہالت ، خواتین پر ظلم کا اصل سبب
گھر کی حقیقی سربراہ، عورت ہے اور مرد ظاہری حاکم
خواتین سے متعلق روایات میں ظالمانہ فکرو عمل سے مقابلہ
اہل مغرب کی ایک ظاہری خوبصورتی مگر درحقیقت؟

تیسرا باب: خواتین کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھریلو زندگی سے متعلق اسلام کی نظر

دریچہ

پہلی فصل: خواتین کے بارے میں اسلام کی واضح ، جامع اور کامل نظر
اسلام کی نظر کی کامل شناخت اور مکمل وضاحت کی ضرورت
ظالم اور مقصر کون، مرد یا عورت یا دونوں؟

خواتین پر ظلم کی راہ میں مانع دو چیزیں
دوسری فصل: اسلام خواتین کے کمال، راہ وصول اور طریقہ کار کو معین کرتا ہے

الف: معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان

اہل ایمان کیلئے دو مثالی خواتین کا تذکرہ، زن فرعون اور حضرت مریم

ب: اجتماعی فعالیت کا میدان

اجتماعی فعالیت اور حجاب و حدود کی رعایت

معاشرتی زندگی میں حجاب کے فوائد

معاشرتی زندگی میں خواتین کی فعالیت کی اساسی شرط؛

عفت و پاکدامنی کی حفاظت اور مردوں سے غیر شرعی تعلقات سے دوری

ج: گھریلو زندگی کا میدان

۱. شوہر کا انتخاب

بیوی پر شوہر کی اطاعت !

مستحکم گھرانے کیلئے میاں بیوی کی صفات و عادات سے استفادہ

۲ تربیت اولاد

خاندانی نظام زندگی کی اہمیت سے روگردانی !

عورت ، گھر کی بانی اور محافظ

گھریلو اور اجتماعی فعالیت میں توازن ضروری ہے

اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا موثر کردار

تیسری فصل: خواتین پر مغرب کا ظلم و خیانت اور اسلام کی خدمات

الف: پہلی خدمت: انسانی اقدار کے سوداگروں کا ظلم اور اسلام کی خدمت

ب: دوسری خدمت: عورت کے معنوی کمال ، اجتماعی فعالیت اور خاندانی کردار پر بھرپور توجہ

ج: تیسری خدمت: اسلامی نظام میں خواتین کی جداگانہ بیعت کی اہمیت

د: چوتھی خدمت: حضرت زہرا (ع) کی سیرت، اسلام میں خواتین کے سیاسی اور اجتماعی کردار پر واضح ثبوت

ه: پانچویں خدمت: عورت، گھر میں ایک پھول ہے!

اسلامی انقلاب میں خواتین کا صبر و استقامت اور معرفت

خواتین پر مغرب کا ظلم اور خیانت

خواتین کا اسلامی تشخص اور اُس کے تقاضے

چوتھا باب: حقوق نسواں کے دفاع کیلئے لازمی اصول

دریچہ

پہلی فصل: خواتین سے متعلق فعالیت و جدوجہد کے اغراض و مقاصد

اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا کردار

حقوق نسواں سے متعلق چند اہم ترین سوالات

۱ بدف، انسانی اور اسلامی کمال تک عورت کی رسائی ہو

الف: پہلا بدف

ب: دوسرا بدف

۲ روش اور شعاع کو اسلامی ہونا چاہیے

مغرب میناز ادا کا غلط مفہوم

۳ جدوجہد، تقلیدی اور کسی سے متاثر نہ ہو

۴ جدوجہد کو اسلامی آئیڈیل کے مطابق ہونا چاہیے

مرد و عورت ہونا ہم نہیں بلکہ وظیفے کی ادائیگی ہم ہے

حقوق نسوان کے دفاع کی لازمی شرائط

بدف و مقصد، اسلامی ہو

آمنہ بنت الہدیٰ، ایک جلیل القدر خاتون

حقوق نسوان کی طرف مغرب کے مجددانہ رجوع کی وجہ

دوسری فصل: اسلامی روش و احکامات

خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلامی روش

شوہر اور بیوی کا آرام اور سکون بخش وجود

عورت پر ہونے والے ظلم کی مختلف شکلیں

تیسری فصل: حقوق نسوان کے دفاع کیلئے بنیادی نکات

۱ معنوی اور اخلاقی امور کی طرف توجہ

پہلا نکتہ

دوسرا نکتہ

۲ حقوق نسوان کے بارے میں اسلام کی نظر پر توجہ

۳ انحرافی بحث و گفتگو سے اجتناب

۴ قانونی دفاع

۵ خواتین کی عفت کی رعایت

امریکی اعداد و شمار

۶ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا

۷ حقوق نسوان پر تجاوز کرنے والوں سے قانونی کاروائی

ایک اہم نکتہ!

خواتین کی نسبت مغربی نگاہ کے جال میں پھنسنے سے پرہیز

تھوڑا سا انصاف کیجئے

چوتھی فصل: حقوق نسوان کے دفاع کیلئے تین بنیادی نکات

۱ عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنے دیئے

پہلی بات

دوسری بات

تیسری بات

چوتھی بات

۲ اسلامی ثقافت، شرعی احکامات اور رضائے الہی پر توجہ

مغربی ثقافت کا ظاہری مثبت نکتہ

اس ظاہری مثبت نکتے کے پس پردہ منفی نکات

ہم کیا کام کریں؟

رضائے الہی کیلئے کام کیجئے

بیماری کی تشخیص کیلئے حقیقت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے!

اسلامی احکامات کی حکمت!

حکمت اور دوسرے کلام میں فرق
عورت کا اجتماعی کردار
اسلامی خواتین کا اجتماعی کردار
۳ گھرانے میں شوہر اور بیوی کے کردار پر زیادہ توجہ کی ضرورت
بیوی کیلئے امن و سکون کا ماحول فراہم کیجئے
ہندوستانی عورت اور روزانہ پانچ رویے کی اجرت!

پانچواں باب: اسلامی خواتین کا آئیڈیل

دریچہ

پہلی فصل: حضرت زہرا کی کامل و جامع شخصیت

حضرت زہرا، عظیم نعمت الہی

حضرت زہرا کے بچپن کا سخت ترین زمانہ

فاطمہ زہرا اپنے والد کی مونس و غمخوار

حضرت زہرا کی علمی فضیلت اور راہ خدا میں آپ کا جہاد

فاطمہ، عالم بشریت کا درخشاں ستارہ

اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا کی شخصیت

سیرت حضرت زہرا کی کماحقہ معرفت

عظمت خدا کا ایک اور نمونہ!

حضرت فاطمہ سے درس خدا لیجئے

حضرت زہرا کے صبر اور غور و فکر کی عظمت!

دوسری فصل: عملی سیرت

فاطمہ، ماں کی خالی جگہ

طلوع اسلام کے بعد علی و فاطمہ کی خدمات

علی سے شادی کیلئے خدا کا انتخاب

تیسری فصل: شوہروں کی جدوجہد و فعالیت میں خواتین کا بنیادی کردار

عورت کا جہاد؟!

حضرت زہرا کا عظیم ترین جہاد

خواتین کی اکثر زحمتوں سے مرد بے خبر ہیں!

چھٹا باب: اسلامی گھرانہ اور خاندانی نظام زندگی

دریچہ

پہلی فصل: اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت

گھرانہ، کلمہ طیبہ یا پاک بنیاد

گھرانہ، انسانی معاشرے کی اکائی

اچھا گھرانہ اور اچھا معاشرہ

گھرانہ، روح و ایمان اور فکر و خیال کی بہترین پرورش گاہ

گھرانہ، سکون اور اصلاح کا مرکز

اچھے گھرانے کی خوبیاں

اچھے خاندانی نظام میں ثقافت کی منتقلی کی آسانی

خوشحالی گھرانہ اور مطمئن افراد

گھرانہ، زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی جھاو

اچھے گھرانے کا ہر سکون ماحول

گھریلو فضا میں خود کو تازہ دم کرنے کی فرصت

دینداری ، خاندان کی بقائ کا راز

دینداری ، خاندان کی حقیقی صورت

دوسری فصل: اسلامی تعلیمات میں مذہبی گہرانے کے خدوخال

مذہبی گہرانہ ، دنیا کیلئے ایک آئیڈیل

دو مختلف نگاہیں مگر دونوں خوبصورت

حقیقی اور خیالی حق

خوش بختی کا مفہوم

ایک دوسرے کو جنتی بنائیے

ایک دوسرے کو خوش بخت کیجئے

حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین

نام کتاب : عورت ، گوہر ہستی

صاحب اثر : حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہ ای دامت برکاتہ

ترجمہ و اضافات : سید صادق رضا تقوی

کمپوزنگ : مبارک زیدی

طابع : الباسط پرنٹرز 6606211-021

اشاعت اول : محرم ۱۴۲۸ ہجری / فروری ۲۰۰۷ء

تعداد : ۲۰۰۰

قیمت : 80 روپے

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

شہید آیت اللہ بہشتی نے فرمایا: ”عورت ، اسلام میں ایک زندہ حقیقت ، موثر ترین وجود ، مجاہد اور انقلابی کردار کا نام ہے“

انتساب!

عالم ہستی کی سب سے افضل ترین، کامل ترین، بہترین اور اور عالم اسلام کی نوجوان روحانی و سیاسی خاتون شخصیت حضرت فاطمہ زہراؑ کے نام! جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے تا قیامت اسوہ عمل ہیں

سخن ناشر

”عورت گوہر ہستی“، در اصل ایک زندہ حقیقت و سچائی اور اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

”عورت گوہر ہستی“ میں سماجی اور گھریلو مسائل سمیت عورت کے اجتماعی، سیاسی اور معنوی کردار، مغرب میں خواتین کی حالت زار، خواتین پر مغرب کے ظلم اور اسلام کی خدمات، آزادی نسوان کے حقیقی مفہوم، خواتین کی فعالیت کیلئے جامع راہنمائی، حجاب کی حقیقت و فوائد، عورت کے بارے میں اسلام کی حقیقی نگاہ اور اسلامی آئیڈیل کو قرآن و روایات کی روشنی میں بہت سادہ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

”عورت گوہر ہستی“، رہبر عالی قدر کی تقاریر ہیں کہ جنہیں قرآن و عترت فاؤنڈیشن، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپریل ۲۰۰۶ء میں تہران سے شایع کیا، درحقیقت وہ عمیق تجزیہ و تحلیل ہیں جو ایک اسلامی عورت کی راہنمائی کیلئے بھر پور کردار ادا کرسکتی ہیں۔

نشر ولایت پاکستان کا قیام ۲۰۰۲ء میں عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کا مقصد رہبر معظم ولی امر مسلمین جہان

حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ کے تمام مطبوع اور غیر مطبوع آثار کی حفاظت اور انہیں اُردو زبان میں منتقل کرنا ہے۔

نشر ولایت پاکستان ، دشمن کی ثقافتی یلغار کو روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اُمید ہے کہ یہ کتاب آپ کے علمی ذوق میں اضافے اور حقیقی اور مذہبی زندگی کی راہنمائی میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔

نشر ولایت پاکستان
(مرکز حفظ و نشر آثار ولایت)

مُقَدِّمہ

اس دنیا کا ہر ذی حیات موجود، خداوند عالم کی حکمت و عدالت کی بنیاد پر عالم خلقت میں نہ صرف یہ کہ اپنے ہدف و غایت اور اپنی زندگی سے متعلق خاص سوالات کے جوابات کامتلاشی ہے بلکہ اپنے خاص اور مناسب مقام میں دیگر مخلوقات سے باہمی رابطے و معاملے کے بندھن میں بھی جڑا ہوا ہے۔ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کی تمام مخلوقات کے درمیان، سب سے اَحْسَنُ تَرِيْنِ تَخْلِيْقِ (انسان)، دیگر موجودات کے مقابلے میں بہت زیادہ حکمت و عدالت سے مالا مال ہے اور خداوند عالم کے پنہاں اسرار و رموز نے اُس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ مرد و عورت ، دو متقابل نقاط میں نہیں بلکہ معاملے، رابطے اور تعامل کے ایک نقطے پر تکمیلِ خلقت ، دوامِ نسل اور محبت و سکون میں توازن کیلئے خلق ہوئے ہیں اور خدائے رحمان و رحیم نے دونوں میں سے ہر ایک کو اُس کی خلقت کے بُنیادی مقصد کی جوابدہی اور اُس کے مناسب ترین مقام تک رسائی کیلئے اپنے لطف و رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اُس نے ایک وجود کو لطافت ، نرمی، نفاست ، ظرافت اور محبت بخشی ہے تو دوسرے کو قوت و طاقت ، مضبوط و بلند حوصلے اور تکیہ و اعتماد کا مرکز بنایا ہے۔ نہ پہلے کو دوسرے پر برتری دی ہے اور نہ دوسرے کو پہلے پر سبقت کاموقع فراہم کیا ہے بلکہ اُس نے ہر ایک کو خاندانی مدار اور عالم ہستی کے نظام میں اپنی اپنی مخصوص ذمے داریوں اور شرعی واجبات کی ادائیگی کیلئے مقرر کیا ہے۔ عالم خلقت میں دونوں کی جداگانہ ذمے داریوں کے تعین کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کے حقوق واضح ہوجاتے ہیں اور اسی نگاہ سے دونوں کی حدود اور دائرہ فعالیت بھی مشخص ہوجاتے ہیں۔ بشر نے اپنی جاہلانہ و شیطانی روش کی وجہ سے کہ جب اس نے حدودِ الہی سے تجاوز کیا ، نہ صرف یہ کہ اپنی مخصوص ذمے داریوں اور فرائض کو نہیں پہچانا بلکہ دائرہ فعالیت اور حد بندی کو بھی یکسر فراموش کر دیا اور یوں عورتوں پر بھی ستم کیا، پورے معاشرتی نظام کو تہ و بالا کیا اور ساتھ ہی مردوں پر بھی ظلم کیا۔ انسانی معاشرے میں موجود انحطاط ، برائیاں اور عربانی و فحاشی سب حقوق و حدودِ الہی سے تجاوز کرنے اور ظالمانہ رفتار و کردار پر دلالت کرتے ہیں۔ در حالانکہ تمام جگہ خداوند عالم کے احکام جاری و ساری ہیں اور روحانیت و رحمتِ الہی ، حیات بخش بارش کی مانند ہر آن و ہر لمحہ نشاط و سلامتی لیکر آتی ہے۔

اسلامی انقلاب ، اس ظراوت و نشاط کی پہلی کرن ہے اور مرد و عورت سب پر خداوند عالم کی رحمت و معنویت کی زندہ نشانی ہے ۔ اسلامی انقلاب نے سیرت حضرت ختمی مرتبت ، اور امیر المومنین کی تعلیمات کی روشنی و پیروی میں تمام خواتین کو اُن کے عظیم و بلند مقام پر فداکار اور محبت نچاؤ کرنے والی ماؤں، صابر، مونس و غمخوار بیویوں، استقامت اور قدم جما کر (میدان جنگ سمیت تمام محاذوں پر لڑنے والی) مجاہدہ خواتین کی صورت میں پرورش دی ہے۔

میک آپ شدہ جاہلیت اور ٹیکنالوجی کے غرور میں ڈوبے ہوئے مغربی معاشرے نے ”اسلامی ثقافت اور اسلامی نکتہ نظر سے عورت کے مقام“ کے مقابلے میں خود کو ایک بڑی مصیبت میں گرفتار کر کے اپنی فعالیت اور جدوجہد کو اور تیز کر دیا ہے تاکہ شخصیت زن اور حقوق نسوان کی تازہ نسیم کا راستہ روک سکے اور مظلوم خواتین کو اُس تازہ فضا میں سانس نہیں لینے دے ۔ سیمینار منعقد کیے گئے ، کانفرنسوں کا آغاز کیا گیا، قراردادیں پاس ہوئیں اور مغرب کی پسند کی بنیاد پر خواتین کی آزادی کی سخن سامنے آئی۔ لیکن مسلمان خواتین کو حقوقِ نسوان کے ان مدافعوں کی نہ کوئی حاجت تھی اور نہ ہی انہوں نے اہل مغرب کی کوششوں کو سچا اور حق کے مطابق پایا۔ ”آبِ حیات“ اُن کے کوزے میں تھا اور وہ تشنہ لب نہیں تھیں، عشقِ الہی کے جام کی شیرینی اُن کے دلوں میں رچی بسی تھی اور وہ بیگانوں کے سامنے دست بہ سوال نہیں تھیں۔ اگر وہ اپنے حق میں کسی ظلم و ستم یا حقوق کے ملنے میں کسی خلل کا

مشاہدہ کرتیں تو انہیں حدود الہی اور احکام خدا کی عدم پابندی کا نتیجہ قرار دیتیں نہ کہ احکام و حدود الہی کو توڑنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اپنے حقوق تک رسائی کیلئے کوششیں کرتیں تو مغرب کی تقلید اور ان کی تاریک ثقافت سے کوئی بھی اثر لئے بغیر اسلام کے محور اور اُس کے نورانی احکامات کے مطابق انجام دیتیں۔ خطبات و تقاریر کا یہ منتخب مجموعہ دراصل رب ربہ معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای دامت برکاتہ کے وہ راہنما اصول ہیں کہ جن میں انہوں نے خالص اسلام کی نگاہ کو اس خاص زاویے سے بیان فرمایا ہے اور ان پر تاکید فرمائی ہے۔ یہ بیانات دراصل خواتین کے بارے میں مغرب کے انحطاط اور مشکلات پر ایک عمیق اور صادقانہ تجزیہ بھی ہیں اور اسلام کی نگاہ میں شخصیت اور حقوق نسواں پر صحیح نظر بھی، ساتھ ہی حقوق نسواں کا پاس رکھنے اور گھرانے کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کیلئے مشفقانہ اور پدارنہ نصیحتیں بھی۔ البتہ اس مختصر سی کتاب میں موجود بیانات خواتین کے بارے میں رب ربہ معظم کے تمام بیانات نہیں ہیں بلکہ ان کا خلاصہ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان بیانات کا مطالعہ نہ صرف یہ کہ قارئین کے علم میں اضافے کا باعث ہوگا بلکہ وہ انہیں اپنا سرمشق قرار دیتے ہوئے اپنی گمشدہ حقیقت کو پانے کیلئے اسلامی احکامات کی روشنی میں جدوجہد کریں گے، ان شاء اللہ۔

عورت ، گوہر ہستی

پہلا باب :

مغرب اور خواتین

دریچہ

مغرب اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کے بارے میں شدید قسم کے افراط کا شکار رہا ہے اور اب اس مسئلے میں تفریط کی سیاہ گھٹاؤں نے اُسے آگھیرا ہے۔ ہم بہت دور کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اقتصادی ، اجتماعی اور تحصیل علم کے مسائل میں حقوق نسواں کو کبھی رسمی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور آج جبکہ مغربی تمدن کی اوج کا زمانہ ہے تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر جنسی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات، گھرانے (میں عدم تربیت و عدم محبت) کے بحران اور فیمین ازم (حقوق نسواں) کے کھوکھلے نعروں نے مغربی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے۔

مرد و خواتین کے باہمی تعلقات میں آزادانہ میل ملاپ اور لا اُبالی پن ، مردوں کی لذت و شہوت کی تکمیل کیلئے خواتین کا وسیلہ بننا، خواتین کا فضول خرچی، عیش پرستی اور زینت پرستی کی دوڑ میں شریک ہونا، عریانی، بے پردگی اور برائیوں کا عام ہونا، مردوں کی جنسی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مرد اور خواتین کے درمیان اختلافات ان جملہ اجتماعی اور ثقافتی اختلافات میں سے ہیں کہ جس نے مغرب کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے۔ دنیا کے انسان اور مسلمان ، ان ظلم و ستم کی وجہ سے مغربی ثقافت کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے ہیں اور مغرب کو اب ملامت و سرزنش کا نشانہ بننا چاہیے۔

پہلی فصل

خواتین اور گھرانے کے بارے میں مغرب کا افراط و تفریط

مغربی ادب میں عورت کی مظلومیت

سب سے پہلے مغربی معاشرے کی مشکلات اور مغربی ثقافت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اُس کے بعد اسلام کی نظر بیان کروں گا۔ اہل مغرب ، عورت کے مزاج کی شناخت اور صنفِ نازک سے برتاؤ میں افراط و تفریط کا شکار رہے ہیں۔ بنیادی طور پر عورت کے بارے میں مغرب کی نگاہ دراصل غیر متوازن اور عدم برابری کی نگاہ ہے۔ آپ مغرب میں

لگائے جانے والے نعروں کو ملاحظہ کیجئے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں اور حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ ان نعروں سے مغربی ثقافت کی شناخت ممکن نہیں بلکہ مغربی ثقافت کو ان کے ادب میں تلاش کرنا چاہیے۔ جو لوگ مغربی ادب، یورپی معاشرے کے اشعار، ادبیات، ناول، کہانیوں اور اسکرپٹ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مغربی ثقافت میں قبل از قرون وسطیٰ کے زمانے سے لے کر اس صدی کے آخر تک عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جو فرد بھی اس حقیقت کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت کے خلاف بولتا ہے۔ آپ شیکسپیر کے ناول کو دیکھئے، آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس ناول میں اور بقیہ مغربی ادب میں صنف نازک کو کن خیالات، کس زبان اور کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی ادب میں مرد، عورت کا سردار، مالک اور صاحب اختیار ہے اور اس ثقافت کی بعض مثالیں اور آثار آج بھی باقی ہیں۔ آج بھی جب ایک عورت، مرد سے شادی کرتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے تو حتیٰ اُس کا خاندانی نام (یا اُس کے اصلی نام کے ساتھ اُس کا دوسرا نام) تبدیل ہو جاتا ہے اور اب اُس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لیا جاتا ہے۔ عورت جب تک شادی نہیں کرتی وہ اپنے خاندانی نام کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتی ہے لیکن جب وہ شوہر دار ہو جاتی ہے تو عورت کا خاندانی نام، مرد کے خاندانی نام میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ہے اہل مغرب کی رسم! لیکن ہمارے ملک میں نہ تو یہ رسم کبھی تھی اور نہ آج ہے۔ (ہمارے معاشرے میں) عورت اپنے خاندان (میکے) کے تشخص کو اپنے ساتھ شادی کے بعد بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مغرب کی قدیم ثقافت کی نشانی ہے کہ مرد، عورت کا آقا اور مالک ہے۔ یورپی ثقافت میں جب ایک عورت اپنے تمام مال و منال کے ساتھ شادی کرتی تھی اور شوہر کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو نہ صرف یہ کہ اُس کا جسم، مرد کے اختیار میں ہوتا تھا بلکہ اُس کی تمام ثروت و دولت جو اُس کے باپ اور خاندان (میکے) کی طرف سے اُسے ملتی تھی، شوہر کے اختیار میں چلی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا انکار خود اہل مغرب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مغربی ثقافت کا حصہ ہے۔ مغربی ثقافت میں جب عورت اپنے خاوند کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو در حقیقت اُس کے شوہر کو اُس کی جان کا بھی اختیار ہوتا تھا! چنانچہ آپ مغربی کہانیوں، ناولوں اور یورپی معاشرے کے اشعار میں ملاحظہ کریں گے کہ شوہر ایک اخلاقی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور کوئی بھی اُسے سرزنش نہیں کرتا! اسی طرح ایک بیٹی کو بھی اپنے باپ کے گھر میں کسی قسم کے انتخاب کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُسی زمانے میں مغربی معاشرے میں مرد و خواتین کا طرز زندگی ایک حد تک آزاد تھا لیکن اِس کے باوجود شادی کا اختیار اور شوہر کا انتخاب صرف باپ کے ہاتھ میں تھا۔ شیکسپیر کے اسی ناول میں جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ یہی کچھ ہے کہ ایک لڑکی کو شادی پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے اور آپ کو ایک ایسا گھر نظر آئے گا کہ جس میں عورت سخت دباؤ میں گھری ہوئی ہے، غرض جو کچھ بھی ہے وہ اسی قسم کا ہے۔ یہ ہے مغربی ادب و ثقافت! موجودہ نصف صدی تک مغرب کی یہی ثقافت رہی ہے۔ البتہ انیسویں صدی کے اواخر میں وہاں آزادی نسوان کی تحریکیں چلنی شروع ہوئی ہیں۔

یورپی عورت کی آزادی کے مغرضانہ مادی عوامل

محترم خواتین اور خصوصاً جوان لڑکیاں کہ جو اِس مسئلے میں فکر کرنا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور توجہ کریں۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جب یورپ میں خواتین کا ”حق مالکیت“ معین کیا گیا جیسا کہ یورپی معاشرتی ماہرین کی تحقیقاتی سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے، اس لیے تھا کہ مغرب میں صنعت و جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے زمانے میں کارخانوں اور ملوں نے رونق حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی سخت ضرورت تھی مگر مزدور کم تھے اور کارخانوں کو مزدوروں کی ایک بڑی تعداد درکار تھی۔ اسی لیے انہوں نے خواتین کو کارخانوں کی طرف کھینچا اور اُن کی طاقت و توانائی سے استفادہ کیا۔ البتہ خواتین مزدوروں کو دوسروں کی بہ نسبت کم تنخواہ دی جاتی تھی، اُس وقت اعلان کیا گیا کہ عورت کو مالکیت کا حق حاصل ہے! بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ نے خواتین کو ”حق مالکیت“ دیا۔ یہ ہے خواتین کے بارے میں مغرب کا افراطی، غلط اور ظالمانہ رویہ۔

جلتا ہوا مغربی معاشرہ!

اس قسم کے افراط کے مقابلے میں تفریط بھی موجود ہے۔ جب اُس گھٹن کے ماحول میں خواتین کے حق میں اس قسم کی (ظاہراً) پُرسود تحریک شروع ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ دوسری طرف سے خواتین تفریط کا شکار ہوتی ہیں۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں گے کہ ان چند دہائیوں میں خود آزادی نسوان کے نام پر مغرب میں کئی قسم کی برائیوں، فحاشی و عریانی اور بے حیائی نے جنم لیا اور یہ سب برائیاں بتدریج رواج پیدا کرتی گئیں کہ جن سے خود مغربی مفکرین بھی

حیران و پریشان ہیں۔ آج مغربی ممالک کے سنجیدہ ، مصلح، خردمند اور سینے میں دل و تڑپ رکھنے والے افراد اس جنم لینے والی موجودہ صورتحال سے حیران و پریشان اور ناراض ہیں لیکن وہ اس سیلاب کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے خواتین کی خدمت کرنے کے نام پر ان کی زندگی پر ایک بہت کاري ضرب لگائی ہے ، آخر کیوں؟ صرف اس لئے کہ مرد و عورت کے درمیان تعلقات میں اس لا اُبالی پن، برائیوں اور فحاشی و عریانی کو فروغ دینے اور ہر قسم کی قید و شرط سے دور مرد و خواتین کی آزادی اور طرز معاشرت نے گھرانے کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ مرد جو معاشرے میں آزادانہ طور پر اپنی شہوت کی تشنگی کو بجھا سکے اور وہ عورت جو سماج میں بغیر کسی مشکل اور اعتراض کے مردوں سے مختلف قسم کے روابط برقرار کرسکے، گھر کی چار دیواری میں یہ مرد نہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور نہ ہی یہ عورت ایک اچھی اور بہترین و وفادار بیوی بن سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہانگھرانے کی بنیادیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں ہیں۔

موجودہ زمانے کی سب سے بڑی بلاوں میں سے ایک بلا و آفت ” گھرانے کے مسائل“ ہیں کہ جس نے مغربی ممالک کو اپنے پنچوں میں جکڑا ہوا ہے اور انہیں ایک بدترین قسم کی نامطلوب حالت سے اُچار کر دیا ہے۔ لہذا ایسے ماحول و معاشرے میں اگر کوئی خاندان اور گھرانے کے بارے میں نعرہ لگائے (اور اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کرے) تو وہ اہل مغرب خصوصاً مغربی خواتین کی نگاہوں میں وہ ایک مطلوب و محبوب شخص ہے ، لیکن کیوں؟ اس لئے کہ یہ لوگ مغربی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کے تزلزل سے سخت نالاں اور پریشان ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے عائلی نظام نے وہ چیز جو مرد و خواتین بالخصوص خواتین کیلئے امن و سکون کاماحول فراہم کرتی ہے ، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ بہت سے گھرانے اور خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں ، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو زندگی کے آخری لمحات تک تنہا زندگی بسر کرتی ہیں، بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی پسند کے مطابق خواتین حاصل نہیں کر پاتے اور بہت سی ایسی شادیاں ہیں کہ جو اپنے نئے سفر کے ابتدائی چند سالوں میں ہی جدائیوں اور طلاق کا شکار ہو جاتی ہیں۔

ہمارے ملک میں موجود خاندان اور گھرانے کی جڑیں اور محکم بنیادیں ، آج مغرب میں بہت کم مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ مغربی معاشرے میں ایسے خاندان بہت کم ہیں کہ جہاں دادا، دادی ، نانا ، نانی ، نواسے ، نواسیاں ، پوتے، پوتیاں، چچا زاد بہن بھائی اور خاندان کے دیگر افراد ایک دوسرے سے واقف ہوں ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں اور آپس میں تعلقات رکھتے ہوں۔ وہاں ایسے خاندان بہت کمیاب ہیں اور وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں میاں بیوی بھی ایک گھر کیلئے لازمی و ضروری پیار و محبت سے عاری ہیں۔ یہ وہ بلا ہے جو غلط کاموں کو انجام دینے اور ایک طرف سے افراط اور دوسری طرف سے اُس کے مقابل سر اٹھانے والی تقریظ کے نتیجے میں اُس معاشرے پر مسلط ہوئی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مغربی خواتین کو ہوا ہے۔^۱

۱ تہران کے آزادی جیم خانہ میں خواتین کی ایک بڑی کانفرنس سے خطاب

عورت ، گوہر ہستی

دوسری فصل

جاہلانہ تمدن و ثقافت کے خطرات و نتائج

حقوق نسواں، موجودہ دنیا کا ایک گھمبیر اور حل نشدہ مسئلہ

حقوق نسواں کے بارے میں جو دنیا کا ابھی تک ایک حل نشدہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔

جب ہم اس دنیا کے انسانی نقشے اور مختلف انسانی معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں ، خواہ وہ ہمارے اپنے ملک کا اسلامی معاشرہ ہو یا دیگر اسلامی ممالک کا یا حتیٰ غیر اسلامی معاشرے بھی کہ جن میں پیشرفتہ اور متمدن معاشرے بھی شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاشروں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حقوق نسواں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کج فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلندو بانگ دعویٰ، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جدوجہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود ان دو جنس (مرد و عورت) اور مسئلہ خواتین کے اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے، کے بارے میں ایک سیدھے راستے اور صحیح روش کو ابھی تک ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔

شاید آپ خواتین کے درمیان بہت سے ایسی خواتین ہوں کہ جنہوں نے دنیا کی بنرمند خواتین کے بنری اور ادبی آثار کو دیکھا یا پڑھا ہو کہ ان میں بعض آثار فارسی زبان میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور بعض اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اسی کے ذیل میں ان دو جنس ، مرد و عورت کے مسئلے اور بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بشر ابھی تک عاجز و ناتوان ہے۔ یہ عبارت دیگر؛ زیادتی ، کج فکری اور فکری بدبھمی اور ان کے نتیجے میں ظلم و تعدی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات ؛ ان دو جنس۔ مرد و زن۔ کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نشدہ مسائل کا حصہ ہیں۔ یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیشقدمی اور سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے ، نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گہٹیوں کو سلجھانے اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیشرفت کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس ایک مسئلے میں زمین گیر و ناتوان ہے۔ اگر میں ان تمام ناکامیوں اور انجام نشدہ امور کو فہرست وار بیان کروں تو اس کیلئے ایک بڑا وقت درکار ہے کہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔

دنیا میں ”خاندانی“ بحران کی اصل وجہ!

خاندانی مسائل کہ جو آج دنیا کے بنیادی ترین مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں ، کہاں سے جنم لیتے ہیں ؟ کیا یہ خواتین کے مسائل کا نتیجہ ہیں یا پھر مرد و عورت کے باہمی رابطے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک خاندان اور گھرانہ جو دنیا نے بشریت کا اساسی ترین رکن ہے ، آج دنیا میں اتنے بحران کا شکار کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی بقول معروف آج کی متمدن مغربی دنیا میں خاندان کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کا خواہ ایک مختصر سا ہی منصوبہ کیوں نہ پیش کرے تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا، مرد ، خواتین اور بچے سب ہی اس کا پُر تپاک استقبال کریں گے۔

اگر آپ دنیا میں ”خاندان“ کے مسئلے پر تحقیق کریں اور خاندان کے بارے میں موجود اس بحران کو اپنی توجہ اور کاوش کا مرکز قرار دیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس بحران نے ان دو جنس یعنی مرد و عورت کے درمیان باہمی رابطے ، تعلقات اور معاشرے سے مربوط حل نشدہ مسائل سے جنم لیا ہے یا بہ تعبیر دیگر یہ نگاہ و زاویہ، غلط ہے۔ اب ہم لوگ ہیں اور مقابل میں مرد حضرات کے خود ساختہ افکار و نظریات ہیں، تو جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ خواتین کے مسئلے کو جس نگاہ و زاویے سے دیکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مردوں کے مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنا بھی غیر معقول ہے یا مجموعاً ان دونوں کی کیفیت و حالت کا اس نگاہ سے جائزہ لینا سراسر غلطی ہے۔

مرد و عورت کی کثیر المقدار مشکلات کا علاج

اس مسئلے کی مشکلات ، زیادہ اور مسائل فراوان ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ان سب کا راہ حل یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں۔ دراصل مرد و عورت کے مسائل کے حل کیلئے پیغام الہی میں بہت ہی اہم مطالب بیان کئے گئے ہیں لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغام الہی اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خداوند عالم کے ”پیغام وحی“ نے اس مسئلے میں صرف و عظ و نصیحت کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے راہ حل کیلئے زندہ مثالیں اور عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔

آپ ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم جب تاریخ نبوت سے مومن انسانوں کیلئے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں یہ مثال بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ“ ۱۔ (اللہ نے اہل ایمان کیلئے زن فرعون کی مثال

بیان فرمائی ہے۔) حضرت موسیٰ کے زمانے میں اہل ایمان کی کثیر تعداد موجود تھی کہ جنہوں نے ایمان کے حصول کیلئے بہت جدوجہد اور فداکاری کی لیکن خداوند عالم نے ان سب کے بجائے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خداوند عالم خواتین کی طرفدار کرنا چاہتا ہے یا در پردہ حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت (زن فرعون) خدا کے پسندیدہ اعمال کی بجا آوری کے ذریعے ایسے مقام تک جا پہنچی تھی کہ فقط اسی کی مثال ہی پیش کی جاسکتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام اور حضرت مریم علیہا السلام سے قبل کی بات ہے۔ فرعون کی بیوی، نہ پیغمبر ہے اور نہ پیغمبر کی اولاد، نہ کسی نبی کی بیوی ہے اور نا ہی کسی رسول کے خاندان سے اُس کا تعلق ہے۔ ایک عورت کی روحانی و معنوی تربیت اور رُشد اُسے اس مقام تک پہنچاتی ہے!

البتہ اس کے مقابلے میں یعنی برائی میں بھی اتفاقاً یہی چیز ہے۔ یعنی خداوند متعال جب بُرے انسانوں کیلئے مثال بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے۔ ”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُّوحٍ وَ امْرَأَتٍ لُوطٍ“، ۲ (اللہ نے اہل کفر کیلئے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے)۔ یہاں بھی خدا نے دو عورتوں کی مثال پیش کی ہے کہ جو برے انسانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے زمانے میں کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ان کا معاشرہ برے افراد سے پُر تھا لیکن قرآن اُن لوگوں کو بطور مثال پیش کرنے کے بجائے حضرت نوح و حضرت لوط کی زوجات کی مثال بیان کرتا ہے۔

۱ سورنہ تحریم / ۲۱۱ سورنہ تحریم / ۱۰

اہل ایمان کیلئے زن فرعون کی مثال کے پیش کیے جانے کے ذریعے صنفِ نازک پر یہ خاص عنایت اور ایک عورت کے مختلف عظیم پہلوؤں اور اُس کے مختلف ابعاد پر توجہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ شاید یہ سب اس جہت سے ہو کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اُس زمانے کے لوگوں کے باطل اور غلط افکار و نظریات کی جانب اشارہ کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اُس زمانہ جاہلیت کے باطل افکار و عقائد آج بھی بنوز باقی ہیں، خواہ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا دنیا کی بڑی شہنشاہت کے زمانے کے لوگ ہوں مثل روم و ایران۔

یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد

یورپ کے موجودہ تمدن کی بنیاد، روم کی قدیمی تہذیب و ثقافت پر قائم ہے۔ یعنی یورپ و مغرب اور اُس کے ذیل میں امریکی تہذیب و ثقافت پر سرسے پیر تک جو چیز مسلط و حاکم ہے، وہ وہی اصول و نکات ہیں کہ جو رومی شہنشاہت کے زمانے میں موجود تھے اور وہی اصول و قوانین آج ان ممالک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا معیار بنے ہوئے ہیں۔ اُس زمانے میں بھی خواتین کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، انہیں بہت بلند مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا اور مختلف قسم کے زیور اور آرائش و زینت سے انہیں مزین کیا جاتا تھا مگر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مرد کی ایک خاکی و پست اور سب سے زیادہ مادی (اور حیوانی و شہوتی) خصلت کی سیرابی کا وسیلہ بن سکے! یہ ایک انسان اور صنفِ نازک کی کتنی بڑی تحقیر اور توہین ہے!

ایرانی شہنشاہت کے زمانے میں ایران بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ساسانی سلسلہ بادشاہت کے حرم سراؤں کے قصے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ حرم سرا کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟! حرم سرا یعنی عورت کی اہانت و تذلیل کی جگہ۔ ایک مرد چونکہ قدرت کا حامل ہے لہذا وہ خود کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک ہزار عورتوں کو اپنے حرم میں رکھے۔ اُس زمانے کے بادشاہ کی رعایا کا ہر فرد بھی اگر قدرت و توانائی رکھتا تو وہ بھی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق ایک ہزار، پانچ سو، چار سو یا دو سو عورتوں کو اپنے پاس رکھتا۔ یہ واقعات و حقائق عورت سے متعلق کون سے افکار و نظریات کی عکاسی کرتے ہیں!؟

مغربی عورت کی حالت زار

ہمیں مغرب سے ابھی بہت کچھ طلب کرنا ہے کہ جس نے تاریخ کے مختلف ادوار سے لیکر آج تک اس صنفِ نازک کی اتنی تحقیر و تذلیل کی ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ ابھی ماضی قریب تک یورپ اور مغربی ممالک میں خواتین کو اپنے مستقل اور جداگانہ مالی حقوق حاصل نہیں تھے۔ میں نے ایک دفعہ کافی تحقیق کے بعد اس بارے میں اعداد و شمار آج سے تقریباً چار، پانچ سال قبل نماز جمعہ کے کسی خطبے میں ذکر کیے تھے۔ مثلاً بیسویں صدی کے اوائل تک اُن تمام بلند و بانگ دعوؤں، مغرب میں روز بروز پھیلنے والی بے حیائی اور حد سے گزر جانے والے اور بے مہار جنسی اختلاط و بے راہ

روي کے بعد بھی کہ جس کے بعد یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو اس طرح زیادہ احترام و بلند مقام دیا جاتا ہے، مغربی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت سے آزادانہ استفادہ کرے! وہ شوہر کے مقابلے میں اپنے ذاتی مال و دولت کی بھی مالک نہیں تھی! یعنی جو عورت بھی شادی کرتی تھی اُس کی تمام جمع پونجی اور مال و دولت سب اُس کے شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا تھا اور عورت کو اپنا ہی مال خرچ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، یہاں تک کہ بیسویں صدی کے اوائل میں خواتین کو نوکری و ملازمت اور ملکیت کا حق دیا گیا۔ اہل مغرب نے اس مسئلے کو بھی جو انسانی حقوق کے بنیادی اور ابتدائی ترین مسائل سے تعلق رکھتا ہے، عورت کی پہنچ سے دور رکھا۔ جبکہ اپنی تمام تر توجہ اُن مسائل کی جانب رکھی کہ جو خواتین کے اُن قیمتی اور حقیقتاً قابل قدر مسائل کے مد مقابل ہیں کہ جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو حجاب اور پردے کے بارے میں ہمارے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے ۲۔

حقوق نسواں کے بارے میں استکبار کی غلطی

جاہلیت سے مالا مال عالمی استکبار بہت بڑی غلطی میں ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ ایک عورت کی قدر و قیمت اور بلند مقام اس میں ہے کہ وہ خود کو مردوں کیلئے زینت و آرائش کرے تاکہ آوارہ لوگ اسے دیکھیں، اُس سے ہر قسم کی لذت حاصل کریں اور اُس کی تعریف کریں۔ مغرب کی انحطاط شدہ اور منحرف ثقافت کی جانب سے ”آزادی نسواں“ کے عنوان سے جو چیز سامنے آئی ہے اُس کی بنیاد اس چیز پر قائم ہے کہ عورت کو مردوں کی (حیوانی اور شہوتی) نگاہوں کا مرکز بنائیں تاکہ وہ اُس سے جنسی لذت حاصل کر سکیں اور عورت، مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کیلئے ایک آلہ و وسیلہ بن جائے، کیا اسی کو ”آزادی نسواں“ کہا جاتا ہے؟

جو لوگ حقیقت سے جاہل اور غافل مغربی معاشرے اور گمراہ تہذیب و تمدن میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں تو درحقیقت یہ لوگ عورت پر ظلم کرنے والوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ عورت کو ایک بلند مرتبہ و مقام کے حامل انسان کی حیثیت سے دیکھنے تاکہ معلوم ہو کہ اُس کا کمال، حق اور اس کی آزادی کیا ہے؟ آپ عورت کو عظیم انسانوں کے سائے میں پرورش پانے والے اور اصلاح معاشرہ کیلئے ایک مفید عنصر کی حیثیت سے دیکھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اُس کا حق کیا ہے اور وہ کس قسم کی آزادی کی خواہاں ہے (اور کون سی آزادی اُس کے انسانی مقام و منصب سے میل کھاتی ہے)۔ آپ عورت کو ایک گھرانے اور خاندان کی تشکیل دینے والے بنیادی عنصر کی حیثیت سے اپنی توجہ کا مرکز قرار دیں۔ درست ہے کہ ایک مکمل گھرانہ مرد اور عورت دونوں سے تشکیل پاتا ہے اور یہ دونوں موجود خاندان کی بنیادیں رکھنے اور اُس کی بقا میں موثر ہیں، لیکن ایک گھرانے کی آسائش اور آرام و سکون عورت کی برکت اور صنفِ نازک کے نرم و لطیف مزاج کی وجہ ہی سے قائم رہتا ہے۔ اس زاویے سے عورت کو دیکھنے تاکہ یہ مشخص ہو کہ وہ کس طرح کمال حاصل کر سکتی ہے اور اُس کے حقوق کن امور سے وابستہ ہیں۔

۱ اگست، اکتوبر اور نومبر ۱۹۸۶ء میں نماز جمعہ کے خطبات

۲ خواتین کی ثقافتی کمیٹی کے اراکین، مختلف لیڈی ڈاکٹروں اور پہلی اسلامی حجاب کانفرنس کے عہدیداروں سے ۱۹۹۱ء میں خطاب

جس دن سے اہل یورپ نے جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا شروع کیا اور انیسویں صدی کے اوائل میں مغربی سرمایہ داروں نے جب بڑے بڑے کارخانے لگائے اور جب انہیں کم تنخواہ والے سستے مزدوروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے ”آزادی نسواں“ کا راگ الاپنا شروع کر دیا تاکہ اِس طرح خواتین کو گھروں سے نکال کر کارخانوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں، ایک سستے مزدور کی حیثیت سے اُس کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی جیبوں کو پُر کریں اور عورت کو اُس کے بلند مقام و مرتبے سے تنزّل دیں۔ مغرب میں آج جو کچھ ”آزادی نسواں“ کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے، اُس کے پیچھے یہی داستان کار فرمابے، یہی وجہ ہے کہ مغربی ثقافت میں عورت پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اور مغربی تمدن و ادب میں عورت کے متعلق جو غلط افکار و نظریات رائج ہیں اُن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔

مغربی عورت، مرد کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ

تاریخ میں سب جگہ عورت پر ظلم ہوا ہے لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والا یہ ظلم مثلاً ماضی قریب میں ہونے والا ظلم

در اصل مغربی تمدن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے عورت کو مرد کی شہوت کی تکمیل کے لیے ایک وسیلے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے اور اسے آزادی نسوان کا نام دیا ہے! حالانکہ یہ عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے والے آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی آزادی ہے نہ کہ عورتوں کی۔

مغرب نے نہ صرف اقتصادو صنعت اور اس جیسے دیگر شعبوں میں بلکہ ہنر و ادب میں بھی عورت کو اپنی ہوس اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ آج مغرب کی کہانیوں، ناولوں، مصوّری و نقاشی اور مختلف قسم کے ہنری کاموں کو ملاحظہ کیجیے تو آپ مشاہدہ کریں کہ یہ لوگ عورت ذات کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس نظر و زاویے میں عورت میں موجود قیمتی اقدار و صفات (اور استعداد و لیاقت) پر توجہ دی جاتی ہے؟ کیا عورت سے متعلق یورپی و مغربی طرز فکر میں عورت میں خداوند عالم کی طرف سے ودیعت کیے گئے نرم و لطیف جذبات، احساسات اور مہربانی و محبت پر کہ جس میں ماں کی ممتا و پیار اور بچوں کی حفاظت و تربیت شامل ہے، توجہ دی جاتی ہے یا اُس کے شہوتی اور جنسی پہلو اور خود اُن کی تعبیر اور اصطلاح کے مطابق عورت کے عشقی پہلو پر؟ (اُن کی یہ تعبیر سراسر غلط ہے اس لیے کہ یہ شہوت پرستی ہے نہ کہ عشق)۔ انہوں نے عورت کی اس طرح پرورش کی، یعنی جب بھی اور کوئی بھی چاہے اُسے استعمال کرے اور اسے ایک ایسا مزدور بنا دے جو کم طلب اور ارزاں قیمت ہو۔

اسلام میں خواتین کی فعالیت و ملازمت

اسلام ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اسلام خواتین کے کام اور ملازمت کرنے کا موافق ہے بلکہ اُن کی فعالیت و ملازمت کو اُن حد تک کہ اُن کی بنیادی اور سب سے اہم ترین ذمے داری یعنی تربیت اولاد اور خاندان کی حفاظت سے متصادم نہ ہو شاید لازم و ضروری بھی جانتا ہے۔ ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کیلئے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں خواتین کی قدرت و توانائی سے بے نیاز نہیں ہوسکتا! لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اور فعالیت، عورت کی معنوی اور انسانی کرامت و بزرگی اور قدر و قیمت سے منافات نہیں رکھتے ہوں، مرد اُس کی تذلیل و تحقیر نہ کرے اور اُسے اپنے سامنے تواضع اور جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ تکبر تمام انسانوں کیلئے مذموم اور بدترین صفت ہے سوائے خواتین کے اور وہ بھی نامحرم مردوں کے مقابل! عورت کو نامحرم مرد کے سامنے متکبر ہونا چاہیے۔ ”فَلَا يَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ“ ۱، عورت کو نامحرم مرد کے سامنے نرم و ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کی کرامت و بزرگی کی حفاظت کیلئے لازمی ہے۔ اسلام نے عورت کیلئے اسی کو پسند کیا ہے اور یہ ایک مسلمان عورت کیلئے مثالی نمونہ ہے۔

خواتین کو ہماری دعوت!

یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بالکل درست دنیائے استکبار کے مد مقابل مدّعی ہیں۔ میں نے مختلف مبلغین اور مقررین کے سامنے بارہا مسئلہ خواتین کو ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں کہ جو (خواتین اور دیگر مسائل کے بارے میں) اپنے موقف کا دفاع کریں بلکہ یہ مغرب کی منحرف ثقافت ہے کہ جو اپنا دفاع کرے ہم خواتین کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں درحقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی با انصاف اور عقل مند انسان منکر نہیں ہوسکتا ہے کہ ”یہ عورت کیلئے بہترین ہے“۔ ہم خواتین کو عفت، عصمت، حجاب، مرد و عورت کے درمیان ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد باہمی اختلاط و روابط سے دوری، اپنی انسانی کرامت و بزرگی کی حفاظت اور نامحرم مرد کے سامنے زینت و آرائش نہ کرنے کی تاکہ وہ عورت سے لذت حاصل نہ کرے، دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ باتیں بری ہیں؟! یہ ایک مسلمان عورت سمیت تمام عورتوں کیلئے کرامت و بزرگی ہے۔

وہ افراد جو خواتین کو اس بات کی ترغیب دیتے اور اُن کی ہمتیں بندھاتے ہیں کہ وہ اپنی اس طرح زینت و آرائش کریں کہ کوچہ و بازار کے مرد اُن پر نگاہ ڈالیں اور اپنی جنسی خواہشات کی سیرابی کیلئے (حرام راستے سے) اقدامات کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو چاہیے کہ اپنا دفاع کریں کہ مرد، عورت کو اس حد تک پست کیوں کرے اور اُس کی اتنی تحقیر و تذلیل کرے؟ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ ہماری اسلامی ثقافت، ایسی ثقافت ہے کہ جسے مغرب کے عقل مند افراد اور مفکرین پسند کرتے ہیں اور اُن کا کردار ایسا ہی ہے۔ اُس مغربی ثقافت میں صاحب عفت، متین اور سنجیدہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنے لیے قدر و قیمت کی قائل ہیں اور اِس بات کیلئے قطعاً حاضر نہیں ہیں کہ خود کو اجنبی، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ قرار دیں۔ مغرب کی منحرف شدہ ثقافت میں اس جیسی مثالیں فراوان ہیں۔ ۲

عورت ، گوہر ہستی

دوسرا باب:

خواتین کے مسائل اور حقوق کے بارے میں اسلام کی عادلانہ نظر

دریچہ

اسلام، خواتین کیلئے ایک عظیم و بلند مقام و مرتبے کا قائل ہے اور انہیں مشخص شدہ حقوق اور عملی زندگی خصوصاً خاندان کے قیام و دوام میں بنیادی کردار عطا کرتا ہے اور اسی طرح ان کے اور مردوں کے درمیان فطری اور منطقی حدود کو معین کرتا ہے۔

خواتین کیلئے اسلام کی سب سے بڑی خدمت، معاشرے کے اس اہم طبقے اور ان کے حقوق کی نسبت عمومی نظر و زاویے کی اصلاح اور خواتین کو ایک جامع خاندانی نظام اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم کردار دلانا ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی نظام زندگی میں ان کے حقوق اور مقام و مرتبے کو استحکام بخشنا، فضول خرچی، شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ، تجمل پرستی، زینت و آرائش کو ظاہر نہ کرنا اور جنسی و مادی امور میں سرگرمی کو ممنوع قرار دینا اور خواتین کے رُشد و معنوی ترقی اور بلند و بالا انسانی مقامات تک رسائی کے امکانات فراہم کرنا، اسلام کی ہدایت اور منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔

پہلی فصل

عورت، عالم ہستی کا اہم ترین عنصر

عورت ، عالم خلقت کے اہم ترین امور کی ذمہ دار

میری بہنو! خواتین کا موضوع اور معاشرے کا اُس سے برتاؤ اور رویہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے مختلف معاشروں اور مختلف تہذیب و تمدن میں زیر گفتگو رہا ہے۔ اس دنیا کی نصف آبادی ہمیشہ خواتین پر مشتمل رہی ہے۔ دنیا میں زندگی کا قیام جس تناسب سے مردوں سے وابستہ ہے، اسی طرح خواتین سے بھی مربوط ہے خواتین نے عالم خلقت کے بڑے بڑے کاموں کو فطری طور پر اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور تخلیق کے بنیادی کام مثلاً بچے کی پیدائش اور تربیت اولاد ، خواتین کے ہاتھوں میں ہیں۔ پس خواتین کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور مختلف معاشروں میں مختلف مفکرین اور مختلف اقوام و ملل کے اخلاق و عادات میں ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ اسلام نے ان اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کو منتخب کر کے اُسے افراط و تفریط سے بچاتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے۔

خواتین مرد کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی آگے!؟

اسلام نے ان مردوں کو جو اپنے قدرت مند جسم یا مالی توانائی کی وجہ سے مردوں اور خواتین کو اپنا نوکر بناتے ، ان سے خدمت لیتے اور خواتین کو اذیت و آزار اور کبھی کبھی تحقیر کا نشانہ بناتے تھے، مکمل طور پر خاموش کر دیا ہے اور خواتین کو ان کے حقیقی اور مناسب مقام تک پہنچایا ہے بلکہ خواتین کو بعض جہات سے مردوں کے شانہ بشانہ لاکھڑا کیا ہے۔ ”إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ“ (قرآن بیان کر رہا ہے کہ) مسلمان مرد اور مسلمان عورت، عابد مرد اور عابد عورت اور نماز شب پڑنے والا مرد اور نماز شب ادا کرنے والی عورت ۔

پس اسلام نے انسانی درجات اور روحانی مقامات کو مرد و عورت کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہے۔ (یعنی ان مقامات تک

رسائی ان دونوں میں سے کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس زاویے سے مرد و عورت ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں۔ جو بھی خدا کیلئے نیک عمل انجام دے گا ”مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى“، خواہ مرد ہو یا عورت، ”فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً“ ۱، ہم اُسے حیاتِ طیبہ عطا کریں گے۔

اسلام نے کچھ مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح دی ہے۔ مثلاً جہاں مرد و عورت، ماں و باپ کی صورت میں صاحبِ اولاد ہیں۔ اُن کی یہ اولاد اگرچہ کہ دونوں کی مشترکہ اولاد ہے لیکن اولاد کی اپنی ماں کیلئے خدمت و ذمے داری باپ کی بہ نسبت زیادہ اور لازمی ہے۔ اولاد پر ماں کا حق باپ کی بہ نسبت زیادہ ہے اور ماں کی نسبت اولاد کا وظیفہ بھی سنگین ہے۔

خاندان میں عورت کا حق!

اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں پیغمبر اکرم ﷺ سے کسی نے سوال کیا: ”من عبر؟“ (میں کس سے نیکی کروں)۔ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا ”أُمَّكَ“۔ یعنی اپنی ماں سے۔ آپ ﷺ نے اس کے دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہ فرمایا اور اس کے تیسرے سوال کا یہی جواب دیا لیکن چوتھی مرتبہ جواب میں فرمایا ”أَبَاكَ“ (اپنے باپ سے نیکی کرو)۔ پس خاندان کی چار دیواری میں عورت کا اولاد پر حق بہت سنگین ہے۔ البتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک طبقے کو اکثریت پر ترجیح دے بلکہ یہ اس جہت سے ہے کہ خواتین زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ بھی عدلِ الہی ہے کہ خواتین کی زحمتیں زیادہ ہیں تو اُن کا حق بھی زیادہ ہے اور خواتین زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں لہذا اُن کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے۔ یہ سب عدالتِ الہی کی وجہ سے ہے۔ مالی مسائل میں خاندان اور اُس کی سرپرستی کا حق اور اُس کے مقابل خاندان کو چلانے کی ذمہ داری میں اسلامی روش ایک متوازن متعادل روش ہے۔ اسلامی قانون نے اس بارے میں اتنی سی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ مرد یا عورت پر

۱ سورنہ نحل / ۹۷

ذرا برابر ظلم ہو۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کا حق الگ الگ بیان کیا ہے اور اُس نے مرد کے پلڑے میں ایک وزن اور عورت کے پلڑے میں دوسرا وزن رکھا ہے۔ اگر ان موارد میں اہل فکر توجہ کریں تو وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ آج ہماری فاضل اور مفکر خواتین الحمد للہ ان تمام مسائل کو دوسروں اور مردوں سے بہتر طور پر جانتی ہیں اور ان کی تبلیغ بھی کرتی ہیں یہ تھا مرد و عورت کے حقوق کا بیان۔

دوسری فصل

اسلام اور حجاب

مرد اور عورت کی درمیانی ”حد“ پر اسلام کی تاکید

یہاں ایک بنیادی نکتہ ہے کہ جس پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں مردوں کے مزاج، عورتوں کی بہ نسبت سخت اور ان کے ارادے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے قوی اور جسم مضبوط رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہم ترین کاموں اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اپنے عہدے لیے ہوا تھا اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مردوں کیلئے اپنی جنس مخالف سے اپنے فائدے کیلئے سوئی استفادہ کرنے کے امکانات فراہم کیے ہیں۔ آپ دیکھئے کہ بادشاہوں، ثروت مند، صاحبِ مقام و صاحبِ قدرت افراد میں سے کون نہیں ہے کہ جس نے اپنے درباروں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے مال و دولت اور مقام قدرت وغیرہ کے بل بوتے صنف نازک سے سوئی استفادہ، دست درازی اور بے ابروئی کیلئے اقدامات نہ کیے ہوں!؟

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام اپنی پوری قوت و قدرت کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے اور معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیتا ہے اور ان کے درمیان تعلقات میں سختی و پابندی کرتا ہے۔ اسلام کی رو سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حد کو پائمال کرے اور اس قانون کی بے احترامی کرے، کیونکہ اسلام نے خاندان اور گھرانے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ گھر کے گلشن میں مرد و عورت کا باہمی رابطہ کسی اور قسم کا ہے اور معاشرے میں کسی اور قانون کے تابع۔ اگر معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان حائل فاصلوں کے قانون کا خیال نہ رکھا

جائے تو نتیجے میں خاندان اور گھرانہ خراب ہو جائے گا۔ گھرانے میں عورت پر اکثر اوقات اور مرد پر کبھی کبھار ممکن ہے ظلم ہو۔ اسلامی ثقافت، مرد و عورت کے درمیان عدم اختلاط کی ثقافت ہے۔ ایسی زندگی، خوشبختی سے آگے بڑھ سکتی ہے اور عقلی معیار و میزان کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طریقے سے حرکت کر سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام نے سختی کی ہے۔

اسلام کی رو سے اگر معاشرے میں (نامحرم) مرد اور عورت کے درمیان فاصلے اور حد کو عبور کیا جائے، خواہ یہ خلاف ورزی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے تو اسلام نے اس معاملے میں سخت گیری سے کام لیا ہے۔ اسی نکتے کے بالکل مقابل وہ چیز ہے کہ جسے ہمیشہ دنیا کے شہوت پرستوں نے چاہا اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ صاحبان زر و زمین اور قدرت و طاقت رکھنے والے مرد، خواتین، ان کے ماتحت افراد اور ان افراد نے کہ جنہوں نے ان افراد کے ساتھ اور ان کیلئے زندگی بسر کی، یہی چاہا ہے کہ مرد و عورت کادر میانی فاصلہ اور حجاب ختم ہو جائے۔ البتہ خود یہ امر معاشرتی زندگی اور معاشرتی اخلاق کیلئے بہت برا اور مُصّر ہے۔ یہ فکر و خیال اور عمل معاشرتی حیا و عفت کیلئے باعث زیاں اور گھر و گھرانے کیلئے بہت نقصان دہ اور برا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کو متزلزل کرتی ہے۔

حجاب و پردے میں اسلام کی سنجیدگی

اسلام، خاندان اور گھرانے کیلئے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ مسلمانوں سے مغرب کی تمام پروپیگنڈا مشینریوں کا اختلاف اور جرح و بحث اسی مسئلے پر ہے۔ آپ دیکھئے کہ اہل مغرب حجاب و پردے کے مسئلے پر کتنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں! اگر یہ حجاب، اسلامی جمہوریہ میں ہو اُسے برا شمار کرتے ہیں، اگر عرب ممالک کی یونیورسٹیز و جامعات میں ہو کہ جہاں جوان لڑکیاں اپنی معرفت، آگاہی اور اپنے تمام میل و اختیار سے حجاب کا انتخاب کرتی ہیں، تو اپنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں اور اگر سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں میں حجاب ہو تو بھی ان کی بھنویں چڑھ جاتی ہیں حتیٰ اگر خود ان کے اسکولوں میں لڑکیاں باحجاب ہوں تو باوجود یہ کہ یہ لڑکیاں ان کے ملک کی باشندہ ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ حجاب کی نسبت حساس ہوجاتے ہیں۔ پس اختلاف کی جڑ یہیں ہے۔ البتہ خود یہ لوگ اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے ہر وقت فریاد بلند کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلامی جمہوریہ میں خواتین کے حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود ان کو اس مسئلے کا یقین نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے حقوق کمزور اور پائمال ہونے کے بجائے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔

اسلامی انقلاب اور حقوق نسواں!

آپ توجہ کیجئے کہ آج ایران کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور جامعات میں خواتین طالب علموں اور تحصیل علم میں مصروف لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا زمانہ طاغوت میں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تعداد آج زیادہ ہے۔ حصول تعلیم کے میدان میں اچھی پوزیشن اور اچھے نمبر (درجات) لانے والی لڑکیوں کی تعداد آج زیادہ ہے یا شاہی حکومت کے زمانے میں تھی۔ وہ خواتین جو ہسپتالوں، صحت کے مراکز اور مختلف علمی اداروں میں کام اور تحقیق میں مصروف عمل ہیں آج ان کی تعداد زیادہ ہے یا گزشتہ زمانے میں زیادہ تھی؟ وہ خواتین جو ملکی سیاست اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی شجاعت و دلیری کے ذریعے اپنے ملک و قوم کے حقوق اور موقف کا دفاع کرتی ہیں، ان کی تعداد آج زیادہ ہے یا انقلاب سے قبل ان کی تعداد زیادہ تھی؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد آج پہلے کی نسبت زیادہ ہے شاہی حکومت کے زمانے میں خواتین مختلف گروپوں کی شکل میں سیاحت اور سفر کیلئے جاتی تھیں اور یہ سفر بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتے تھے لیکن ہوس رانی، شہوت پرستی اور اپنی وضع قطع اور زینت و آرائش کو دوسروں کو دکھانے کیلئے۔ لیکن آج کی مسلمان عورت بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی کانفرنسوں، علمی مراکز اور جامعات میں علمی، سیاسی اور دیگر قسم کی فعالیت انجام دے رہی ہے اور انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔

مغربی اور مغرب زدہ معاشرے میں خواتین کی صورتحال

طاغوتی ایام میں ہماری لڑکیوں کو ’’آئیڈیل لڑکی‘‘ اور ’’بہترین مثال‘‘ کے نام سے خاندان اور گھرانوں کے پاکیزہ اور پیار و محبت سے لبریز ماحول سے باہر کھینچ کر برائیوں کی کیچڑ میں ڈال دیتے تھے لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں۔ حقوق نسواں کہاں ضایع ہوتے ہیں؟ جہاں خواتین سے تحصیل علم، مناسب ملازمت، ان کی فعالیت اور خواتین کی خدمت کرنے جیسے اہم امور کے دروازے خواتین پر بند کر دیے جاتے ہیں اور جہاں انہیں تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جائے

اور امریکی معاشرے کو دیکھئے! آپ مشاہدہ کریں گے کہ اُس معاشرے میں عورت کی کتنی تحقیر کی جاتی ہے! گھر کی عورت، شوہر کی طرف سے اہانت کا نشانہ بنتی ہے اور ماں اپنے بچوں کی طرف سے تحقیر کا۔ ماں کے حقوق کہ جس طرح اسلامی مراکز اور معاشروں میں موجود ہیں، اُس معاشرے میں اُن کا تصور بھی ممکن نہیں۔

خواتین، معاشرہ اور حجاب!

میں نے ایک بین الاقوامی فورم میں بہت ہی اہم اور معروف تقریر میں خاندان اور گھرانے سے متعلق گفتگو کی۔ بعد میں جو رپورٹ ہمیں ملی وہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ اُس ملک کے باشندوں نے میری تقریر کے اسی حصے کو بہت توجہ سے سنا اور بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اُن ممالک میں خاندان اور گھرانوں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور وہاں کے معاشرتی نظام میں خواتین مختلف قسم کی ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مرد و عورت کے درمیان ایک حد اور فاصلہ موجود ہے۔ اس حد اور فاصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد و عورت ایک جگہ علم حاصل نہیں کریں، ایک جگہ عبادت انجام نہ دیں اور ایک جگہ کاروبار اور تجارت نہ کریں، اس کی مثالیں ہمارے یہاں زیادہ موجود ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے اخلاق و کردار کیلئے اپنے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین (مردوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے باوجود) اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہماری عوام نے حجاب کیلئے چادر کو منتخب کیا ہے۔ البتہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ”حجاب و پردے کیلئے صرف چادر کو ہی ہونا چاہیے اور چادر کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے“، ہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ ”چادر دوسری چیزوں سے زیادہ حجاب کیلئے موزوں اور بہترین ہے“۔ ہماری خواتین اس بات کی خواہاں ہیں کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں لہذا وہ چادر کو پسند کرتی ہیں۔ چادر ہماری خواتین کا قومی لباس ہے۔ چادر قبل اس کے کہ اسلامی حجاب ہو، ایک ایرانی حجاب ہے۔ چادر ہماری عوام کا منتخب کیا ہوا حجاب اور خواتین کا قومی لباس ہے۔

اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی ترقی

ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ، مسلمان اور باایمان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو یا تحصیل علم میں مصروف ہیں یا ملکی جامعات میں اعلیٰ درجے کے علوم و فنون کو بڑے پیمانے پر تدریس کر رہی ہیں اور یہ بات ہمارے اسلامی نظام کیلئے باعث افتخار ہے۔ الحمد للہ ہمارے یہاں ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو طب اور دیگر علوم میں ماہرانہ اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں بلکہ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جنہوں نے دینی علوم میں بہت ترقی کی ہے اور بہت بلند مراتب و درجات عالیہ تک پہنچی ہیں۔ اصفہان میں ایک بہت ہی عظیم القدر خاتون گزری ہیں ”اصفہانی بانو“ کے نام کی کہ جو مجتہدہ، عارف و فقیہ تھیں۔ اُس زمانے میں صرف وہ تہن تنہا تھیں لیکن آج بہت سی ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو مستقبل قریب میں علمی، فلسفی اور فقہی اعلیٰ مقامات تک رسائی حاصل کرنے والی ہیں اور ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ خواتین ہمارے اسلامی نظام کیلئے باعث افتخار ہیں۔ اسے کہتے ہیں پیشرفت زن اور خواتین کی ترقی۔ ۱

عورت، گوہر ہستی

تیسری فصل

خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر

خواتین کے بارے میں تین قسم کی گفتگو اور اُن کے اثرات

الف: خواتین کی تعریف و ستائش کی گفتگو

پہلی قسم کی گفتگو انقلاب میں خواتین کے فعال کردار کی تمجید و ستائش کے بارے میں ہے۔ اسی طرح انقلاب کے بعد اور اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے میں خواتین کے موثر کردار کے بارے میں بھی ہے کہ اگر انقلاب سے قبل اور انقلاب

کے زمانے میں خواتین اس مبارزے اور تحریک میں شرکت نہیں کرتیں تو یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یا موجودہ زمانے میں خواتین کے کردار کو بیان کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ذمے دار افراد ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ جامعات میں خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، خواتین بڑی بڑی ذمے داریوں کو قبول کر رہی ہیں یا وہ عوامی اجتماعات میں اس طرح شرکت کرتی ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر بحث ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے اور یہ بہتر بھی ہے۔ یہ بحث و گفتگو نہ صرف یہ کہ ترغیب دینے والی بھی ہے بلکہ حقائق کو روشن بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو اس میدان میں اسلامی جمہوریہ کے موقف کو سامنے لاتی ہے لیکن خواتین کے مسائل کے مستقبل کیلئے بہت سودمند اور تاثیر گزار نہیں ہے۔

۱ اکتوبر ۱۹۹۴ میں نرسوں کے ایک وفد سے خطاب

ب: خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کی وضاحت دوسری قسم کی بحث و گفتگو، خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ میں نے خواتین سے متعلق گفتگو کی، میری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام بنیادی طور پر خواتین کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عورت تین مقامات پر اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے۔ اُن میں سے ایک انسانی کمال کا میدان ہے۔ اس بارے میں اسلام کی نظر یہ ہے کہ ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ“ (مسلمان، مومن، صادق، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزہ دار، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور خدا کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں) یہاں خداوند عالم نے مرد اور عورت کی دس بنیادی صفات کو کسی فرق و تمیز کے بغیر دونوں کیلئے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ”أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“ ۱ (اللہ نے ایسے مردوں اور خواتین کیلئے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کیا ہے)۔ لہذا اس میدان میں اسلام کی نظر کو معلوم کرنا اور اُسے بیان کرنا چاہیے۔

دوسرا میدان کہ جس میں عورت اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ سیاسی فعالیت ہو، اقتصادی ہو یا اجتماعی یا کوئی اور غرضیکہ عورت، معاشرے میں وجود رکھتی ہو۔ لہذا اس میدان میں بھی اسلام کی نظر کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خواتین کی فعالیت کاتیسرا میدان؛ عائلی اور خاندانی نظام زندگی میں عورت کے میدان سے عبارت ہے لہذا اس میں بھی اسلام کی نظر کو واضح کرنے ضرورت ہے۔

۱ سورہ احزاب / ۳۵

ہمارے محققین و مقررین ان تمام جہات میں اسلام کی نظر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ مطالب کو ذکر کیا ہے اور دوسرے افراد بھی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری نظر میں یہ بحث و گفتگو، بہت مفید اور اچھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلامی نظریات اور مغربی دعووں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اسلام ان تین میدانوں میں خواتین کے کردار و فعالیت کو کس طرح بیان کرتا ہے اور اہل مغرب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور حق بھی یہی ہے اور عدل و انصاف بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ان تینوں میدانوں میں عورت اور معاشرے کیلئے اسلام کی نظر، دنیا میں رائج تمام نظریات و گفتگو سے کئی مراتب بہتر، مفید اور مضبوط و مستحکم ہے۔

پس آپ توجہ کیجئے کہ دوسری قسم کی گفتگو اُن مطالب سے عبارت ہے کہ جہاں مختلف شعبوں میں اسلام کی نظر بیان کی جاتی ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ ان تمام کاموں کو بھی انجام پانا چاہیے اور یہ بالکل بجا ہیں۔ ممکن ہے اس جگہ مختلف ابہامات اور غیر واضح امور موجود ہوں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ افراد بیٹھیں، بحث کریں اور اپنے نظریے کو بیان کریں تو اُس وقت اُس گفتگو کو باآسانی اور بہترین طریقے سے زیر بحث لایا جاسکتا ہے جو گزشتہ کچھ عرصے سے فقہی حوالے سے ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا خواتین قاضی بن سکتی ہیں اور کیا خواتین اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی منصب کی حامل ہو سکتی ہیں؟

ج: معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کی مشکلات تیسری قسم کی بحث و گفتگو ”خواتین کی مشکلات“ کے بارے میں ہے کہ اس بندہ حقیر کی نظر میں اس مسئلے پر ہمیں اپنی فکر کو متمرکز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم نے اس مسئلے کا صحیح حل نہیں نکالا تو گزشتہ دونوں قسم کی گفتگو اور بحث، خواتین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کسی کام نہیں آسکیں گی۔ دیکھنا چاہیے کہ عورت کو معاشرے میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ عورت اپنی عائلی اور گھریلو زندگی میں کن مشکلوں سے دوچار ہے؟

کون سی گفتگو اہم ہے؟

آپ خواتین کو جو ”حقوق نسواں اور ان کے مسائل“ کے میدان میں سرگرم عمل ہیں، اس بات پر ہرگز قانع نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس سلسلے میں یا ایک عورت کے فلاں عہدے کو لینے یا نہ لینے یا دیگر مسائل میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کیلئے کتاب لکھے۔ لہذا ان چیزوں پر قانع ہو کر اپنی فعالیت کو متوقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ براہ راست خواتین کی مشکلات کے حل کیلئے اقدامات کرنے چاہئیں۔

چوتھی فصل

خواتین سے متعلق صحیح اور غلط نظریات

جہالت، خواتین پر ظلم کا اصل سبب

اس بندہ حقیر کا بیان ہے کہ پوری تاریخ میں اور مختلف معاشروں میں عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے۔ ایک جگہ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ظلم و ستم کی وجہ کیا ہے یہ تمام ظلم و ستم، انسان کی جہالت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ اس جاہل انسان کی طبیعت و مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی اُس کے سر پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہ ہو، یا خود اُس کے اندر سے یعنی واضح اور مضبوط ایمان (کہ اس کی مثال بہت کم ہے) یا اُس کے باہر سے کسی قانون کا دباؤ نہ ہو یا اس کے سر پر کوئی تلوار یا قانون کا ڈنڈا نہ ہو تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ طاقت ور موجود، کمزور پر ظلم کرتا ہے۔

گھر کی حقیقی سربراہ، عورت ہے اور مرد ظاہری حاکم

البتہ عورت عقلی اعتبار سے مرد سے ضعیف و کمزور نہیں ہے بلکہ بعض اوقات اُس سے زیادہ قوی ہے۔ اگرچہ کہ عورت کا انداز فکر، مرد کے انداز فکر سے مختلف ہے اور دونوں کے احساسات و جذبات میں فرق ہے کیونکہ دونوں کے احساسات و جذبات ایک خاص کام کیلئے خلق کیے گئے ہیں اور انسانی وجود میں انہیں ودیعت کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر مثلاً ایک علمی مسئلے کے بارے میں زنانہ اور مردانہ انداز فکر میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا ہے لیکن زندگی کو چلانے میں دونوں کے انداز فکر مختلف ہوتے ہیں۔ عاقل اور پختہ عمر کی خواتین میں یہ بات رائج ہے، میں نے بار بار اپنی بزرگ اور بڑی خواتین سے سنا ہے اور صحیح سنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ”مرد ایک بچے کی مانند ہے“، اور بالکل ٹھیک کہتی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک عالم، فاضل اور باشعور مرد بغیر کسی ذہنی بیماری و خلل کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے مد مقابل اور اُس کے ساتھ زندگی گزارنے میں ایک بچے کی مانند ہے اور بیوی اُس بچے کی ماں کی طرح! جس طرح اگر ایک بچے کی غذا میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو وہ رونے چلانے لگتا ہے۔ لہذا اُسے کسی بھی صورت میں قانع کرنا اور چپ کرنا چاہیے ورنہ وہ ضد کرنے لگتا ہے چنانچہ اگر ایک عورت اپنی مہارت سے ان کاموں کو انجام دے سکے تو ایک مرد اُس کے ہاتھوں رام ہو جاتا ہے۔

آپ توجہ فرمائیے کہ میں ان باتوں کو کیوں نقل کر رہا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ مرد کے ایک بچے ہونے پر دستخط کروں، البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے میں میری مراد یہ نہیں ہے بلکہ میرے پیش نظر یہ نکتہ ہے کہ مرد اور عورت کی ذہنیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت کی پختگی و مہارت اُس کے اپنے دائرہ فعالیت میں اُس کے کام آتی ہے۔ یعنی ایک عورت گھر کی چار دیواری میں یہ سمجھتی ہے کہ مرد ایک بچے کی مانند ہے، لہذا اُس کا کھانا وقت پر تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے ورنہ وہ بداخلاق ہو جائے گا۔ لہذا بہانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے دنیا نہیں چاہیے۔ یا فرض کیجئے کہ مرد اعتراض کرتا ہے تو اُسے کسی بھی طریقے سے قانع کرنا چاہیے۔ اس نکتے کی طرف بھرپور توجہ کیجئے! عاقل اور پختہ خواتین پوری مہارت سے یہ کام انجام دیتی ہیں اور مرد کی حرکات و سکنات، رفتار و عمل اور ذہنیت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ بنا براین، گھر میں حقیقی سربراہ عورت ہے جبکہ علی

الظاہر، مرد ظاہری سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ بہاری آواز، مضبوط جسامت اور لمبے قد کاٹھ کا مالک ہوتا ہے۔ پس مطلب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعض خواتین کی ذہنیت و عقل مردوں سے زیادہ مستحکم ہے یا وہ تفکر، علم اور احساسات وغیرہ میں مرد جیسی ہیں لیکن عورت کاجسم بطور متوسط مرد سے کمزور ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے! بنیادی نکتہ یہی ہے۔ ایک مثال فرض کیجئے کہ جہاں ایک عقل مند انسان ایک جاہل اور بدمعاش انسان کے ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک کو پانی پینا ہو (اور پانی کا ایک پی گلاس موجود ہو)۔ قاعدہ جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ پانی پی جائے گا مگر یہ کہ کسی طرح اسے دھوکہ دیا جائے اور پانی کا گلاس اُس سے چھین لیا جائے۔ تاریخ میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے۔ مرد حضرات اپنے لمبی قدو قامت، بہاری آواز اور مضبوط جسامت اور پٹھووں کی وجہ سے خواتین پر ان کے نازک اندام ہونے، نرم لب ولہجے، نسبتاً چھوٹے قد اور کمزور جسموں کی بنائ پر اُن پر ظلم کرتے رہے ہیں! یہ ایک حقیقت ہے، میری اپنی نظر میں اگر آپ اس ماجرا کی تہہ تک پہنچیں اور تحقیق کریں تو آپ اس مقام پر پہنچیں گی کہ تمام ظلم و ستم کی وجہ یہی ہے۔

خواتین سے متعلق روایات میں ظالمانہ فکر و عمل سے مقابلہ ہاں البتہ اگر کوئی قانون یا بہت شدید قسم کی محبت یا مستحکم ایمان جیسا معنوی عامل موجود ہو تو وہ ان تمام ظلم و ستم کا سدباب کر سکتا ہے۔ البتہ ایمان کو مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے ورنہ بہت سے علمائے ہیں کہ جن کا ایمان تو بہت اچھا ہے لیکن اُسی کے ساتھ ساتھ اُن کا اپنی زوجات سے برتاؤ اور سلوک اچھا نہیں ہے لہذا ایسے لوگ ہماری مجموعی بحث کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ تاریخ میں خواتین ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنی ہیں؟ پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں بھی یہ ظلم و ستم ہوا ہے اور آنحضرتؐ نے اس ظلم سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرمؐ نے خواتین کے بارے میں اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، صرف اسی ظلم و ستم سے مقابلے کیلئے ہیں۔ اگر وہ صرف مقام زن کو بیان کرنا چاہتے تو اس قسم کے پُرجوش و پُراحساس بیانات کی ضرورت نہیں تھی۔ خواتین کے بارے میں حضرت ختمی مرتبتؐ کے احساسات و اظہارات اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ خواتین پر ہونے والا ظلم ہے اور پیغمبر اکرمؐ اس ظلم کے مقابل کھڑے ہیں۔ معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں حضرت ختمی مرتبتؐ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو روایات ۱ نقل کی گئی ہیں وہ اسی ظالمانہ فکر اور ستمگرانہ رویے اور عمل سے مقابلے کی خاطر ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہمارے زمانے میں بھی جاری ہے البتہ صرف ہمارے معاشرے سے مخصوص نہیں ہے لیکن اس بات کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں یہ ظلم موجود ہے اور مغرب میں بہت ہی بدترین شکل میں موجود ہے۔

۱ وسائل الشیعہ، جلد ۲۰، صفحہ ۳۲۴، ۳۵۴

اہل مغرب کی ایک ظاہری خوبصورتی مگر درحقیقت!؟

اہل مغرب صرف ایک خصوصیت کے حامل ہیں کہ اگر خود اُس کے مقام پر اُس کے بارے میں قدرے تأمل اور غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اُن کی یہ خصوصیت مثبت نہیں ہے۔ لیکن مغربی معاشرے میں کئی مقامات پر اس خصوصیت و عادت کو بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہاں ظلم کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ وہ عادت و خصوصیت یہ ہے کہ اہل مغرب مرد و عورت کے آپس میں رویے، سلوک اور برتاؤ کو عورت سے عورت یا مرد سے مرد کے برتاؤ کے مثل قرار دیتے ہیں یعنی وہ ان دو جنس (مرد و عورت) میں کسی بھی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ کوچہ و بازار ہو یا گھر کی چار دیواری، وہ دوستی و رفاقت اور معاشرت میں اسی رفتار کے حامل ہیں۔ ظاہر میں یہ عادت و سلوک بہت دلچسپ اور جالب نظر آتا ہے لیکن جب آپ اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر غلط اور منفی ہے اور اسلام اس کی ہرگز تاکید نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کے درمیان ایک حجاب اور فاصلہ رکھا ہے کہ یہ دونوں اپنی معاشرتی زندگی میں اس حجاب اور حدود کی رعایت کریں۔

بنابراین ہم جس ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایرانی معاشرے یا گزشتہ دور سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ تاریخ کے مختلف زمانوں سے لیکر آج تک ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا وجود رہا ہے۔ آج بھی یہ ظلم

پوری دنیا میں موجود ہے، اسی طرح مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں خواتین کو اذیت و آزار پہنچانے کے واقعات، اُن سے ظالمانہ سلوک و طرز عمل، شکنجے اور مصیبتیں دوسری ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں، البتہ میں نے خود ان اعداد و شمار کو مغربی اور امریکی مطبوعات میں دیکھا ہے نہ یہ کہ ہم اس کو کسی کی زبانی نقل کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ لہذا اس ظلم و ظالمانہ رویے اور عمل سے مقابلے کی ضرورت ہے۔ ۱

۱ نومبر ۱۹۹۶ء میں ثقافتی کمیٹی کے اراکین سے خطاب

عورت، گوہر ہستی

تیسرا باب

خواتین کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھریلو زندگی سے متعلق اسلام کی نظر

دریچہ

اسلام نے تین مختلف میدانوں میں حقوق نسواں کو مشخص کر کے انہیں جاری کیا ہے۔ انفرادی دائرہ زندگی (معنوی کمال)، اجتماعی زندگی (اجتماعی فعالیت) اور گھریلو زندگی، زندگی کے وہ میدان ہیں کہ جہاں خواتین اپنی طاقت کالوبا منواسکتی ہیں اور اس کیلئے لازمی ہے کہ ان تینوں میدانوں میں حدود اور حقوق کو کامل طور پر بیان کیا جائے۔ اسلام نے خواتین کیلئے اس ذمہ داری کو خداوند عالم کی نگاہ سے بیان کیا ہے جو ہر قسم کی خطا و لغزش سے دور ہے۔

پہلی فصل

خواتین کے بارے میں اسلام کی واضح، جامع اور کامل نظر

اسلام کی نظر کی کامل شناخت اور مکمل وضاحت کی ضرورت

اگر معاشرے میں عورت کے بارے میں غلط فکر و نظر موجود ہو تو صحیح معنی میں اور وسیع پیمانے پر اُسے ازسر نو صحیح کرنا مشکل ہوگا۔ خود خواتین کو بھی چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے موضوع پر کافی مقدار میں لازمی حد تک اطلاعات رکھتی ہوں تاکہ دین مبین اسلام کے کامل نظریے کی روشنی میں اپنا حقوق کا بھرپور دفاع کر سکیں۔ اسی طرح اسلامی ملک میں معاشرے کے تمام افراد کو یہ جاننا چاہیے کہ خواتین، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اُن کی موجودگی، فعالیت، تحصیل علم، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور علمی میدانوں میں اُن کی شرکت اور گھر اور گھر سے باہر اُن کے کردار کے بارے میں اسلام کیا بیان کرتا ہے۔

ان سب موضوعات کے بارے میں اسلام کی ایک بہت واضح اور روشن نظر ہے۔ اگر ہم اسلام کی نظر کا دنیا کی مختلف ثقافتوں خصوصاً مغربی ثقافت سے موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی نظر بہت ترقی یافتہ ہے۔ اسی طرح آج کے مرد کے ذہن پر چھائے ہوئے افکار و نظریات کے مقابلے میں اسلامی فکر و نظر بے مثل و نظیر ہے اور یہ اسلام ہی کی واضح اور روشن نظر ہے جو ملکی بہبود و ترقی اور ملک میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ ترقی اور اُن کے مقام و منصب میں اضافے کا باعث ہے۔

میری بہنو! توجہ فرمائیے، میں خاص طور پر اس امر کیلئے تاکید کر رہا ہوں کہ نوجوان خواتین، بلند آرزووں اور آہنی حوصلوں اور قلبی شوق و تڑپ کی مالک ہیں، وہ بھرپور توجہ دیں تاکہ اس جلسے کی مناسبت سے مختصر مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔

انسانی زندگی اور خواتین کی شان و منزلت اور ان کی معاشرتی حیثیت کے بارے میں اسلام کی نظر تین حصوں میں قابل تقسیم ہے۔ میں نے بارہا ان مطالب کو بیان کیا ہے لیکن میرا اصرار ہے کہ ان مطالب کو معاشرے کی خواتین کے لیے جتنا زیادہ ہوسکے بیان کیا جائے۔ جن افراد کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ فعال ہونا چاہیے وہ خود ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں۔

ظالم اور مقصر کون، مرد یا عورت یا دونوں؟

میری بہنو اور بیٹیو! میرا یقین ہے اور یہ میری نظر ہے کہ اسلامی معاشرے کے کسی حصے میں بھی خواہ خود ایران کے اندر ہو یا مختلف ممالک میں، اگر مسلمان خواتین کے بارے میں کوتاہی نظر آتی ہے تو اس میں تھوڑے مقصر خود مرد بھی ہیں اور تھوڑی مقدار میں خود خواتین بھی اس تقصیر میں شامل ہیں۔ کیونکہ جس کسی کو سب سے پہلے خواتین کی اسلامی حیثیت اور مقام و منزلت کو پہنچانا اور اس کا دفاع کرنا چاہیے، وہ خواتین ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ خدا، قرآن اور اسلام نے ان کیلئے کیا احکامات صادر کیے ہیں، ان کے ذریعے خواتین سے کیسا امر مطلوب ہے اور ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو کون معین کرے گا؟ ضروری ہے کہ خواتین اپنے بارے میں اسلامی احکامات اور اسلام کی ان سے توقع کو جانیں، ان کا دفاع کریں اور ان کے حصول کی کریں۔ اگر وہ یہ سب امور انجام نہ دیں تو وہ افراد جو کسی بھی رائج مادی نظاموں (سوشلزم، کمیونزم، کپیٹلزم، فمینیزم؟) کے زیر سایہ، خواتین کیلئے لگائے جانے والے ظاہری خوبصورت نعروں کے باوجود، سب سے زیادہ ظلم مغربی مرد اپنی عورتوں پر کر رہے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی پر، بھائی اپنی بہن پر اور شوہر اپنی بیوی پر۔ دنیا میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق، خواتین، بیویوں، بہنوں یا حتی بیٹیوں پر سب سے زیادہ ظلم و آبرو ریزی اور ان کے حقوق کی پائمالی ان افراد کی طرف سے ہوتی ہے جو مغربی نظاموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی معاشرتی نظام میں معنوی اقدار حاکم نہ ہوں اور خدا کا وجود دلوں میں نہ ہو تو مرد اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ کو اپنے لیے کھلا پائے گا۔

۱ جو معاشرہ اپنی خواتین کی حیثیت و آبرو کو پائمال کرے اور جہاں عورت جیسی عظیم ہستی ایک کھلونے سے زیادہ کی حیثیت نہ رکھتی ہو تو وہ معاشرہ حقیقت میں غریب ہے اور اسے دیار غربت کہنا شائستہ ہے۔ (مترجم)

خواتین پر ظلم کی راہ میں مانع دو چیزیں

دو چیزیں خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں مانع بن سکتی ہیں۔ ایک خدا، قانون اور ایمان وغیرہ کا خیال رکھنا اور دوسری خود خواتین ہیں جو اپنے انسانی اور خدائی حقوق کو اچھی طرح پہچانیں اور ان کا دفاع کریں اور حقیقی طور پر انہیں چاہیں اور حاصل کریں۔ اس سلسلے میں اسلام افراط و تفریط سے دور ایک درمیانی راستے کو متعارف کراتا ہے۔ نہ خود عورت کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی مرد و عورت کی طبیعت و مزاج کو نظر انداز کرتا ہے صحیح اور سیدھا راستہ وہی اسلام کا متعارف کردہ راستہ ہے کہ جس کی مختصر طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

دوسری فصل

اسلام خواتین کے کمال، راہ حصول اور طریقہ کار کو معین کرتا ہے

الف: معنوی کمال اور روحانی رُشد کا میدان

اسلام نے خواتین کی فعالیت کیلئے تین میدانوں کو معین کیا ہے۔ پہلا میدان خود خواتین کے معنوی کمال اور روحانی رُشد کا میدان ہے۔ اس میدان میں (فعالیت، ترقی اور عروج کے لحاظ سے) مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی مرد معنوی اور روحانی لحاظ سے بلند ترین مقامات تک رسائی حاصل کرسکتا ہے اور ایک عورت بھی اعلیٰ ترین درجات پر کمند ڈال سکتی ہے۔ ایک مرد حضرت علی ابن ابی طالب کی پیروی کرتے ہوئے اونچے مقام کو پاسکتا ہے تو ایک عورت بھی حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تاسی و تقلید میں اعلیٰ درجات کو حاصل کرسکتی ہے۔

اہل ایمان کیلئے دو مثالی خواتین کا تذکرہ ، زن فرعون اور حضرت مریم قرآن مجید جب باایمان انسانوں کیلئے کوئی مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو مردوں سے مثال نہیں لاتا بلکہ خواتین میں سے ایک خاتون کو بطور مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ ”مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ“ ۱۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خداوند متعال مومن اور نیک انسانوں میں سے دو خواتین کو بطور مثال اور آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یعنی جب خداوند عالم انسانیت اور معنوی کمال کیلئے مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو پیغمبروں، عظیم مردوں اور علمی و دینی شخصیات کا ذکر کرنے کے بجائے دو خواتین کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک، زن فرعون ہے۔ ”إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ“ ۱ ، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی طاغوتی اور سرکش قدرت سے لڑنے کیلئے ڈٹی رہی اور وہ عورت جو اپنے پورے استقلال کے ساتھ اپنے متجاوز، قدرت مند، فرعون نامی اور فرعون صفت شوہر کے سامنے ثابت قدمی سے رہی۔ عورت کی عظمت یہاں ہے کہ اس کا شوہر ضلالت و گمراہی کے راستے کو اس پر مسلط نہ کر سکے، خواہ وہ شوہر ، فرعون جیسا یا اس جیسی طاقت و قدرت کا مالک ہی کیوں نہ ہو! لاکھوں مرد، فرعون کی قدرت و طاقت کے سامنے تسلیم اور اس کے ارادے کے اسیر و غلام ہیں لیکن خود اس مرد کی بیوی ، خود اس کے گھر میں اس کے اردوں اور قدرت کی اسیر نہیں ہے بلکہ آزاد ہے اور وہ خدا پر ایمان لاتی ہے ، فرعون (کے جاہ و حشم، مال و ثروت اور تخت و تاج اور اس) کے راستے کو خیر آباد کہتی ہے اور اس کے مقابلے میں راہ خدا اور راہ حق کا انتخاب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُسے عظیم و شائستہ اور قابلِ مثال انسان کی حیثیت سے ، نہ صرف خواتین سے بلکہ تمام بنی نوع انسان سے منتخب کیا جاتا ہے۔

۱ سورہ تحریم / ۱۱

دوسری مثالی عورت، دختر حضرت عمران، مادر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم ہیں۔ ”مَرِيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ“ ۲۔ مریم وہ جوان لڑکی ہے کہ جو اپنے شہر کے تمام مردوں کی تمہت اور بدترین اور کثیف ترین سوئی ظن کے مقابلے میں مضبوط کوہ کی مانند جمی رہی اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کلمۃ اللہ اور روح کو اس کے پاکیزہ دامن میں قرار دیا۔ وہ خدا کے نبی کی تربیت اپنے ذمہ لیتی ہے اور اپنے فرزند کو اس زمانے کی تاریک دنیا کی نورانیت کا باعث بناتی ہے۔ یہ دو خواتین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نور افشانی کی ہے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس امر میں اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ ان تمام انسانوں کی کثیر تعداد میں سے کہ جہاں اولین و آخرین کی خلافت جمع ہیں، جب خداوند عالم ، عالم بشریت سے دو انسانوں کو مثال اور نمونے کے طور پر انتخاب کرتا اور انہیں متعارف کرانا چاہتا ہے تو صرف دو خواتین کو منتخب کرتا ہے ، نہ کہ دو مردوں یا ایک مرد ایک عورت کو بلکہ صرف اور صرف دو خواتین کو۔

۱ سورہ تحریم / ۱۱ ”جب زن فرعون نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے“ ۲ سورہ تحریم / ۱۲

پس اس پہلے میدان یعنی انسان روحانی ترقی اور معنوی کمال کے میدان میں ، مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت ، مرد کے مثل اور مرد، عورت کی مانند، دونوں قرب خدا اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج و مراتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ“ ۱۔ خداوند عالم نے (اسلام، ایمان، اطاعت ، صداقت، صبر، خشوع و فروتنی، صدقہ دینے ، روزے داری، شرمگاہ کی حفاظت اور ذکر الہی جیسے اہم ترین معنوی امور میں) مرد و عورت کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لاکھڑا کیا ہے۔ ”أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“ ۲ (خدا نے ان مرد و عورتوں کیلئے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے)۔ یہ وہ پہلا میدان ہے کہ جہاں مرد و عورت میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔

ب: اجتماعی فعالیت کا میدان

دوسرا میدان کہ جہاں خواتین اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہیں وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے۔ خواہ وہ فعالیت اقتصادی ہو

یا سیاسی، یا خاص معنوں میں اجتماعی فعالیت ہو یا تحصیل علم اور تحقیق و ریسرچ، تعلیم و تدریس اور راہ خدا سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں جدوجہد اور محنت کرنا ہو، ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں مختلف قسم کی فعالیت اور محنت و جدوجہد کرنے میں مرد و عورت میں اسلام کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کو تحصیل علم کا حق ہے، عورت کو نہیں، مرد تدریس کر سکتا ہے، عورت نہیں؛ مرد اقتصادی و معاشی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، عورت کو اقتصاد و معیشت سے کیا سروکار اور مرد سیاسی فعالیت انجام دے سکتا ہے، عورت کا سیاست سے کیا کام؟ تو نہ صرف یہ کہ اس کہنے والے نے اسلام کی منطق کو بیان نہیں کیا بلکہ برخلاف اسلام، سخن اُس کے لیونیر آئی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسانی معاشرے اور زندگی کے تمام شعبوں سے مربوط فعالیت میں مرد و عورت دونوں کو شرکت کی اجازت ہے اور دونوں اس امر میں مشترک ہیں۔ البتہ بعض ایسے کام ہیں جو خواتین کے کرنے کے نہیں ہیں چونکہ اُس کی جسمانی ساخت اور اُس کی طبیعت و مزاج اور فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بعض کام ایسے ہیں جنہیں انجام دینا مرد کے بس کی بات نہیں ہے چونکہ اُس کی جسمانی، اخلاقی اور روحی صفات و عادات سے میل نہیں کھاتے۔ اس موضوع کا اِس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت اجتماعی فعالیت کے میدان میں سرگرم عمل ہوسکتی ہے یا نہیں۔ کاموں کی تقسیم در حقیقت امکانات، شوق اور اُس کام کے تقاضوں اور اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اگر عورت شوق رکھتی ہو تو وہ معاشرتی زندگی سے مربوط مختلف قسم کی اجتماعی فعالیت کو انجام دے سکتی ہے۔

۱ و ۲ سورہ احزاب / ۳۵

اجتماعی فعالیت اور حجاب و حدود کی رعایت

البتہ ان فعالیت کی انجام دہی کیلئے کچھ اصول و قوانین کو معین کیا گیا ہے کہ یہ اصول و قوانین عورت اور اُسے فعالیت کی اجازت دینے سے مربوط نہیں ہیں بلکہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط اور بے مہار میل و جول اور رابطے سے مربوط ہے کہ جن کو اسلام بہت زیادہ خاص مسائل کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام مقامات، شاہراہوں، اداروں، کارخانوں وغیرہ میں اپنے درمیان ایک حد و فاصلے کے قائل ہوں اور اسی لیے مرد و عورت کے درمیان حجاب اور اسی سے مربوط حدود و قوانین کو وضع کیا گیا ہے۔ مرد و عورت کا باہمی اختلاط اور میل جول، مردوں کے آپس میں یا خواتین کے آپس میں میل جول اور رابطے جیسا نہیں ہے لہذا ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مرد حضرات بھی ان قوانین اور حدود کا خیال رکھیں اور خواتین بھی حجاب و حدود کی پابندی کریں۔ اگر مرد و عورت کے باہمی رابطے اور میل جول کی روش میں اسلامی احکامات و حساسیت کو مدنظر رکھا جائے تو اجتماعی فعالیت کے میدان کے وہ تمام کام جو مرد انجام دے سکتے ہیں خواتین بھی اگر جسمانی قدرت اور شوق کی مالک ہوں اور فرصت و وقت رکھتی ہوں، وہ کام انجام دے سکتی ہیں۔

خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ اس فکر کے حامل ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لڑکیاں اُن تمام مضامین میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں جو اُن کیلئے سودمند اور مفید ہیں اور انہیں شوق بھی ہے۔ انسانی معاشرے کو تعلیم یافتہ لڑکیوں اور خواتین کی ضرورت ہے جیسا کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکوں اور مرد حضرات کا نیا زمند ہے۔ البتہ تحصیل علم کے ماحول کو لڑکے اور لڑکی دونوں کیلئے صحیح و سالم اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ملکی جامعات کو چاہیے کہ وہ قوم کے بچوں بچیوں کو حصول تعلیم کیلئے امن و سکون کا ماحول فراہم کریں۔ کوچہ و بازار عزت و آبرو اور اخلاق کی حفاظت کے لحاظ سے قابل اطمینان ہوں اور اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ امن و سکون حاصل ہوجائے تو کوچہ و بازار، جامعات اور اسکول و کالج میں بھی امن ہوگا اور افراد کو اخلاقی اور فکری سالمیت بھی حاصل ہوجائے گی۔ یہ اعلیٰ عہدیداروں اور والدین کا کام ہے، تو ایسے ماحول میں مسلمان لڑکے، لڑکیاں اور مرد و خواتین سب اپنی فعالیت کو بطریق احسن انجام دے سکیں گے۔

معاشرتی زندگی میں حجاب کے فوائد

اس قسم کے بے مہار میل جول اور روابط و تعلقات کا سدباب کرنے اور اخلاقی حدود کی حفاظت کیلئے اسلام نے خواتین کیلئے حجاب کو معین کیا ہے۔ خود یہ حجاب خواتین کو ایک قسم کی حفاظت اور امن و سکون عطا کرتا ہے۔ ایک باحجاب

مسلمان عورت نہ صرف یہ کہ امن و سکون کا احساس کرتی ہے بلکہ مسلمان مرد بھی (آنکھوں اور شہوت کے گناہوں وغیرہ کی دوری کی وجہ سے) راحت و آرام پاتے ہیں جہاں بھی حجاب کو خواتین سے لے کر انہیں عریانی و فحاشی (اور بے پردگی) سے نزدیک کیا جائے تو سب سے پہلے خود خواتین اور اس کے بعد مردوں اور نوجوانوں سے (روحانی اور جسمانی) آرام و سکون چھین لیا جائے گا۔ اسلام نے معاشرے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے اور (روحانی و جسمانی) آرام و سکون کی حفاظت کیلئے حجاب کو واجب کیا ہے تاکہ خواتین معاشرے میں باآسانی اپنے امور کو انجام دے سکیں اور مرد اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ برآں ہوسکیں۔ یہ حجاب، اسلام کے شاندار احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اس کا ایک فائدہ یہی ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے دوسرے بہت سے فوائد بھی ہیں کہ جن کی جانب بعد میں اشارہ کریں گے۔

معاشرتی زندگی میں خواتین کی فعالیت کی اساسی شرط؛ عفت و پاکدامنی کی حفاظت اور مردوں سے غیر شرعی تعلقات سے دوری

پس اس دوسرے میدان میں کہ جو اجتماعی، سیاسی، علمی اور دوسری قسم کی فعالیت کا میدان ہے، ایک مسلمان عورت کو ایک مسلمان مرد کی طرح (آزادانہ فضا میں) فعالیت کا حق حاصل ہے مگر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ، یعنی وہ معاشرتی زندگی میں جس خلا اور جس ذمے داری کا اپنے دوش پر احساس کریں، انہیں انجام دیں۔ مثلاً ایک لڑکی چاہتی ہے کہ طب کے شعبے میں قدم رکھے اور ڈاکٹر بنے، یا اقتصاد کے میدان میں اپنی ماہرانہ اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے یا دیگر علمی مضامین میں فعالیت انجام دے، یا جامعہ میں تدریس کرے، یا سیاسی میدان میں مردوں کا بوجھ ہلکا کرے یا صاحب قلم یا ایڈیٹر بن کر ادب و معاشرے کی خدمت کرے تو اس کیلئے تمام راستے کھلے ہیں۔ مگر ایک شرط کے ساتھ! اور وہ یہ کہ وہ اپنی عفت و پاکدامنی کی حفاظت کرے اور مردو عورت کے درمیان بے مہار میل جول اور غیر شرعی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرے تو ایسے اسلامی معاشرے میں مرد و عورت دونوں کیلئے راہ کھلی ہے۔ ہمارے اس مطلب پر گواہ، وہ تمام اسلامی آثار ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی احکام و فرائض ہیں کہ جو مرد و عورت کو یکساں طور پر اجتماعی ذمے داریاں عطا کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”مَنْ أَسْبَحَ لَا يَهْتُمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ“ (جو اس حالت میں صبح کرے کہ اُسے مسلمانوں کے حالات سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے) یہ حکم صرف مردوں کیلئے نہیں ہے بلکہ خواتین کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات، دنیائے اسلام سمیت پوری دنیا کے مسائل کی نسبت احساس ذمے داری کریں اور اُن پر توجہ دیں، چونکہ یہ ایک اسلامی وظیفہ ہے۔

سورئہ احزاب کی آیت نمبر ۳۵ کے مطابق خواہ اسلام ہو یا ایمان کی مضبوطی، خداوند متعال کی اطاعت گزار ہی ہو یا خشوع اور فروتنی، راہ خدا میں صدقہ دینا ہو یا روزے داری، صبر و استقامت ہو یا عزت و ناموس کی حفاظت یا پھر ذکر الہی، ان تمام فضیلتوں میں مرد و عورت سب برابر ہیں (یعنی ہر کوئی اپنی سعی اور کوشش کے نتیجے میں بلند سے بلند مقام حاصل کرسکتا ہے)۔ اگر خواتین اسلامی حدود و قوانین کا احترام کریں تو معاشرتی اور اجتماعی فعالیت اُن کیلئے مکمل طور پر مباح، جائز اور مطلوب ہے۔ خواتین اس شرط کے ساتھ معاشرے میں اپنا بھرپور فعال کردار ادا کریں اور معاشرے میں موجود اپنی نصف طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کو خوشبخت بنائیں۔ جس وقت خواتین بھی معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ تحصیل علم میں مشغول ہوں تو اس کے اجتماعی و انفرادی فوائد اس زمانے کی نسبت دُگنے ہوں گے کہ جب معاشرے میں صرف مردوں کو تحصیل علم کا حق حاصل ہو۔ خواتین کی شعبہ تدریس سے وابستگی کے وقت معاشرے میں معلمین کی تعداد اُس تعداد سے دو برابر ہوگی کہ جب صرف مرد تدریس کریں۔ ملکی تعمیر و ترقی، تعمیر نو، اقتصادی میدان میں آگے قدم بڑھانے، منصوبہ بندی کرنے، ایک ملک، شہر، گاؤں اور گھریلو اور شخصی امور میں مطالعہ کرنے جیسے اہم امور میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ذمے دار ہیں اور سب کو یہ کام انجام دینے چاہئیں۔

۱ کافی، جلد ۲، صفحہ ۱۶۳

مسلمان بیٹیو! اور مومنہ خواتین! یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل یورپ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ

یورپی معاشرے میں عورت آزاد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی یورپی ہی تھے کہ جو نصف صدی قبل عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرے! یعنی ایک یورپی یا امریکی عورت، پچاس ساٹھ سال قبل اگر لاکھونروپے کی مالک بھی ہوتی تو اُسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی خوشی اور ارادے سے اُسے خرچ کر سکے۔ وہ ہر صورت میں اپنے مال و دولت کو اپنے شوہر، باپ یا بھائی کے اختیار میں دے دیتی اور وہ لوگ اپنے میل اور ارادے سے اس عورت کی دولت کو خود اُس کیلئے یا اپنے لیے خرچ کرتے تھے! لیکن اسلام میں ایسا برگز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت اپنی ثروت و دولت کی خود مالک ہے، خواہ اُس کا شوہر راضی ہو یا نہ ہو، اس میں اس کے باپ کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کی رُو سے عورت اپنے مال و دولت اور جمع پونجی کو استعمال میں لائے اور اس میں وہ کسی کے اذن و ارادے کی محتاج نہیں ہے۔ خواتین کے اقتصادی استقلال و آزادی کی حمایت کرنے میں دنیا، اسلام سے تیرہ صدیاں عقب ہے۔ اسلام نے اس امر کو تیرہ صدی قبل بیان کیا ہے لیکن یورپ میں ابھی چالیس پچاس سال اور بعض دیگر ممالک میں اس مدت سے بھی کم عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت میں تصرف کرے! اسلام اس جہت سے بھی بہت آگے ہے۔

ج: گھریلو زندگی کا میدان

خواتین کی فعالیت کا تیسرا اہم ترین میدان، اُن کی گھریلو اور خاندانی زندگی ہے۔ ہم نے معنوی کمال میں عورت کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور ہر قسم کی اجتماعی فعالیت کیلئے اسلامی احکامات کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اس تیسرے حصے میں گھریلو اور خاندانی زندگی میں عورت کے اہم کردار کو بیان کریں گے یعنی ایک عورت، ایک بیوی اور ماں کے روپ میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہاں اسلام کے احکامات اتنے زیادہ نورانی اور باعثِ فخر ہیں کہ انسان جب ان احکامات کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔

۱۔ شوہر کا انتخاب

عورت ایک بیوی اور ہمسر کی حیثیت سے مختلف مراحل زندگی میں اسلام کی خاص لطف و عنایت کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں انتخاب شوہر کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت، انتخاب شوہر کے مسئلے میں بالکل آزاد ہے اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر اور اس کے جیون ساتھی کے انتخاب میں اُس پر کوئی چیز تھوپے یا اپنی رائے مسلط کرے۔ یہاں تک کہ اُس کے بھائیوں، باپ یا اُس کے عزیز و اقارب اگر یہ چاہیں کہ اپنی رائے یا مرضی و پسند کو اُس پر تھوپیں کہ تم صرف فلاں شخص سے ہی شادی کرو تو انہیں برگز یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی نظر ہے۔

لوگوں کے جاہلانہ آداب و رسوم اور ہیں اور اسلامی احکامات اور!

البتہ اسلامی معاشرے میں تاریخی پیچ و خم کے نتیجے میں جاہلانہ عادات و رسوم کا وجود رہا ہے۔ یہ جاہلانہ عادات و رسوم آج بھی بعض ممالک میں موجود ہیں، خود ہمارے ملک کے بعض شہروں میں بھی موجود ہیں۔ فرض کیجئے، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ بعض قبائل میں ہر لڑکی کے چچا زاد بھائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑکی کی شادی کے بارے میں اظہار رائے کرے! یہ کام غلط ہے، اسلام نے کسی کو ایسا کام کرنے کی برگز اجازت نہیں دی ہے۔ حقیقت سے بے خبر اور جاہل مسلمان جو بھی کام کریں اُسے اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جاہلانہ عادات و رسوم ہیں۔ جاہل اور حقیقت سے بے خبر مسلمان، جاہلانہ آداب و رسوم کے مطابق بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جن کا اسلام اور اُس کے نورانی احکامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی لڑکی کو مجبور کرے کہ تم اپنے چچا زاد بھائی سے ہی شادی کرو تو اُس نے خلاف شریعت کام انجام دیا ہے۔ اگر کوئی اس لحاظ سے کہ وہ ایک لڑکی کا چچا زاد بھائی ہے اور (جاہلانہ عادات و رسوم کی بنا پر) اُس نے خود کو یہ حق دیا ہے کہ اُسے شادی کرنے سے منع کرے اور اُس سے کہے کہ چونکہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی پس میں تم کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لڑکی کا چچا زاد بھائی اور جو بھی اُس کی اس فعل میں مدد کرے گا، وہ خلاف شریعت اور حرام فعل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس فعل کا حرام اور خلاف شریعت ہونا بہت ہی واضح ہے اور فقہائے اسلام اس بارے میں متفق القول ہیں۔ اگر فرض کریں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے اپنے اختلافات مثلاً خون ریزی کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے اس طرح اقدامات کریں کہ یہ قبیلہ ایک لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر اور مرضی کے خلاف دوسرے قبیلے کے حوالے کر دے، یہ کام خلاف شریعت ہے۔ البتہ ایک وقت خود لڑکی سے اجازت لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہے، لڑکے

کو چاہتی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے ایک نوجوان سے شادی کرے کہ اس طرح دونوں قبیلوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر لڑکی کو اس کام کیلئے مجبور کیا جائے تو یہ کام شریعت کے سراسر خلاف ہے۔

بیوی پر شوہر کی اطاعت!؟

آپ توجہ فرمائیے کہ اسلامی احکام نے شوہر کے انتخاب اور گھرانے کی تشکیل کی ابتدا ہی سے خواتین کی مدد کرنے کو مدنظر رکھا ہے۔ چونکہ بہت سے مرد، خواتین پر ظلم و ستم کرتے تھے تو اسی لیے اسلام ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ گیا ہے جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے تو اسلام کی نظر میں گھر کے اندر مرد اور عورت دونوں زندگی میں شریک ہیں اور دونوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کا سلوک کریں۔ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرے اور بیوی کو بھی یہ حق حاصل نہیں وہ شوہر سے ناحق بات کہے۔ گھرانے اور خاندان میں مرد و عورت کے رابطے اور تعلقات بہت ظریف ہیں۔ خداوند عالم نے مرد و عورت کی طبیعت و مزاج اور اسلامی معاشرے اور مرد و عورت کی مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان احکامات کو معین کیا ہے۔ شوہر، صرف چند جگہ کہ میں صرف ایک مقام کو صراحت سے بیان کرنے پر ہی اکتفائ کروں گا اور دیگر مقام کو یہاں بیان نہیں کروں گا، اپنی بیوی کو حکم دینے کا حق رکھتا ہے اور بیوی پر لازم ہے کہ اُسے بجالائے۔ وہ مقام کہ جسے میں صراحت کے ساتھ بیان کروں گا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے پر روک سکتا ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ نکاح میں اس بارے میں کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو۔ اگر نکاح میں شرط نہیں لگائی گئی ہو تو مرد بیوی کو روک سکتا ہے۔ یہ احکام الہی کے پیچیدہ اسرار و رموز میں سے ایک راز ہے اور یہ حق صرف شوہر کو دیا گیا ہے۔ حتیٰ باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ایک باپ بھی اپنی بیٹی کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا کہ اگر تم باہر جانا چاہو تو مجھ سے اجازت لو۔ نہ باپ کو یہ حق حاصل ہے اور نہ بھائی کو اپنی بہن کیلئے یہ حق دیا گیا ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کیلئے اس حق کا مالک ہے۔ البتہ خواتین نکاح کے وقت کچھ شرائط کو نکاح میں درج کروا سکتی ہیں اور ان شرائط پر میاں بیوی دونوں کو سختی سے عمل در آمد کرنا ہوگا۔ بھائی، اگر کسی شرط کو نکاح کے ذیل میں لکھیں تو یہ دوسری بحث ہے لیکن پہلے مرحلے میں خداوند عالم نے شوہر کو اپنی بیوی کی نسبت یہ حق عطا کیا ہے۔ ایک دو اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بیوی پر واجب ہے کہ وہ ان میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے (کہ فی الحال ان سے صرف نظر کرتا ہوں)۔

مستحکم گھرانے کیلئے میاں بیوی کی صفات و عادات سے استفادہ

یہ سب احکامات، مرد و عورت کی طبیعت و مزاج کو مدنظر رکھتے ہوئے صادر کیے گئے ہیں۔ مرد و عورت دونوں کے مزاج و فطرت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ گھرانے کے اندر مردوں کے فرائض، کاموں اور مردانہ حوصلے اور جذبے کی عورت سے ہرگز توقع نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح گھر کے ماحول میں بیوی کی نسوانہ خصوصیات کی مرد سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دونوں کی اپنی اپنی فطری اور روحی صفات و خصوصیات ہیں کہ عالم بشریت، معاشرے اور مرد و عورت کے اجتماعی نظام کی مصلحت یہی ہے کہ گھرانے میں دونوں کی خصوصیات و عادات کا اپنے اپنے مقام پر خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو شوہر بھی خوشبخت ہوگا اور بیوی بھی خوشحال رہے گی۔ ایسے ماحول میں کسی کو کسی پر ظلم کرنے، زبردستی اپنی بات منوانے اور دوسرے سے اپنی خدمت کرانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ بعض مرد حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے مربوط تمام کاموں کو انجام دے۔ البتہ گھر کے ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی شوق اور میل سے ایک دوسرے کے کاموں اور امور کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے میل و رغبت سے کسی کام کو انجام دینے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی (شوہر) یہ خیال کرے یا اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ اُس کی بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک نوکرانی کی مانند خدمت کرے۔ اسلام میں ایسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے!

۱ لیکن والدین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کیلئے اس کے غیر مناسب دوستوں اور سہیلیوں سے ملنے، آواری گردی کرنے، گناہ کی محفلوں میں شرکت کرنے اور برائیوں کی طرف قدم بڑھانے اور گناہ کی دلدل میں اسے پھنسنے سے نجات دینے کیلئے اسے تحت نظر رکھ سکتے ہیں یا غیر ضروری طور پر اُسے باہر جانے سے روک سکتے ہیں۔ (مترجم)

گھر اور گھرانے میں خواتین کے من جملہ فرائض میں سے ایک فریضہ، تربیت اولاد ہے۔ وہ خواتین جو گھر سے باہر اپنی مصروفیات کی وجہ سے صاحب اولاد ہونے میں پس و پیش سے کام لیتی ہیں تو وہ درحقیقت اپنی زنانہ اور بشری طبیعت و مزاج کے خلاف اقدام کرتی ہیں۔ خداوند عالم اُن کے اس کام سے راضی نہیں ہے۔ وہ خواتین جو اپنے بچوں، تربیت اولاد، بچے کو دودھ پلانے اور اُسے اپنی محبت بھری آغوش میں پرورش کرنے کو اُن کاموں کیلئے کہ جن کا وجود ان خواتین پر موقوف نہیں ہے، ترک کر دیتی ہیں تو وہ غلطی کا شکار ہیں۔ تربیت اولاد کی بہترین روش یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت و چاہت کے سائے میں اپنی ممتا کی آغوش میں پرورش پائے۔ جو خواتین اپنی اولاد کو خدا کے عطا کیے ہوئے اس عطیے سے محروم کرتی ہیں، وہ غلطی کا ارتکاب کر رہی ہیں اور اس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کے نقصان کیلئے اقدام کیا ہے بلکہ وہ اپنے اور اپنے معاشرے کیلئے بھی ضرر و زیان کا باعث بنی ہیں۔ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ خواتین کے اہم ترین وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت و چاہت، صحیح تربیت، اپنے دل کی پوری توجہ اور تربیت کے اصولوں پر توجہ دیتے ہوئے اس طرح پرورش دیں کہ یہ انسانی موجود خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، جب بڑا ہو تو روحی لحاظ سے ایک سالم انسان اور نفسیاتی الجھنوں سے دور ہو اور ذلت و بدبختی اور ہلاکت و مصیبت کہ جس میں آج مغرب و یورپ اور امریکی نوجوان نسل گرفتار ہے، کے بغیر پرورش پائے۔

خاندانی نظام زندگی کی اہمیت سے رُوگردانی!۔۔۔

میری عزیز بہنو! آپ مشاہدہ کیجئے کہ مغربی خواتین کے اپنے گھرانوں، خاندانوں اور اولاد کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے مغربی معاشرے کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ امریکا اور یورپی ممالک میں آج لاکھوں تباہ حال اور بڑے نوجوان، دس بارہ سال کی عمر میں اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی ممالک ہیں کہ جہاں مادی تہذیب و تمدن اپنے عروج پر ہے، جن کے بڑے بڑے محل و قصر، بڑے اور ترقی یافتہ ایٹمی پلانٹ، سو منزلہ سے زیادہ سر بفلک عمارتیں اور علمی اور ٹیکنالوجی ترقی اور پیش رفت، زبان زد خاص و عام ہے۔ ایسے ماحول میں یہ نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، قاتل ہیں، اسمگلنگ، منشیات، سگریٹ اور دیگر قسم کے نشوں میں گرفتار ہیں۔ ان سب کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی عورت گھر، گھرانے اور خاندانی نظام زندگی کی قدر و قیمت سے غافل ہے۔

گزشتہ زمانے میں مغربی خواتین کی یہ حالت نہیں تھی۔ چالیس پچاس سال سے مغربی خواتین کی حالت خصوصاً امریکا اور بعض یورپی ممالک میں روز بروز بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ جس دن سے مغربی خواتین نے اس غلط راہ پر قدم اٹھایا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ تیس، چالیس یا پچاس سال میں اُن کا ملک و معاشرہ اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ بارہ سالہ لڑکا ریوالور سے گولی چلائے، یا تیز خنجر اپنی جیب میں رکھ کر پھرے یا رات یا دن کے کسی حصے میں نیویارک، لندن یا دوسرے مغربی شہروں کی سڑکوں کے گوشہ و کنار پر کسی کو قتل کرے اور بغیر کسی چیز کا ملاحظہ کیے ہوئے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے! یہ ہے اُن کی حالت زار! جب کسی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کا شیرازہ بکھر جائے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔

عورت، گھرانے کی بانی اور محافظ

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عورت ہی ہے جو ایک گھرانے اور خاندان کو وجود میں لاتی ہے اور اُس کا دوام بھی اُس کی وجود پر برکت سے وابستہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک گھرانے کو تشکیل دینے والا بنیادی اور اساسی عنصر، عورت ہے نہ کہ مرد۔ مرد کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی گھرانہ وجود رکھتا ہو۔ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں مرد موجود نہ ہو یا وہ انتقال کر گیا ہو اور گھر کی عورت اگر عاقل، مدبر اور گھریلو ہو تو وہ اپنے گھرانے کو محفوظ رکھ سکتی ہے، بنا براین، یہ عورت ہی ہے جو نہ صرف یہ کہ گھرانے کو وجود میں لانے کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔

گھرانے اور خاندان میں عورت کے کردار پر اسلام کی اتنی اہمیت دینے اور تاکید کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر عورت اپنے گھرانے اور خاندان سے مخلص ہو، اُس سے عشق و محبت کرے، اپنی اولاد کی تربیت پر اہمیت دے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، انہیں اپنا دودھ پلانے، اپنی آغوش میں پرورش دے، قرآنی قصوں، اسلامی احکامات، سبق آموز کہانیوں اور اسلامی آداب و غیرہ کے ذریعے اُن کی ثقافتی ضرورتوں کو پورا کرے اور ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے مادی غذاؤں کی مانند انہیں اپنے بچوں کی روح کے ذائقے میں ڈالے تو اُس معاشرے کی نسلیں پختہ، رشید اور کامیاب نسلیں

ہوں گی۔ یہ ہے عورت کا ہنر اور فن اور یہ امور اُس کے تحصیل علم ، تدریس ، ملازمت ، فعالیت اور سیاست وغیرہ جیسے اہم میدان میں قدم رکھنے سے کوئی منافات نہیں رکھتا ہے۔

گھریلو اور اجتماعی فعالیت میں توازن ضروری ہے

اسلام کے ابتدائی زمانے میں خواتین میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے علاوہ کہ یہ کام سب سے زیادہ خواتین کے ذمے تھا ، حتیٰ نقاب کے ساتھ بھی اُس زمانے کی سخت اور دوبدو جنگ کے باوجود ، شمشیر بھی چلاتی تھیں! اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتیں ، اُن کی اسلامی تربیت کرتیں اور ساتھ ہی اپنے حجاب کی پوری طرح حفاظت بھی کرتیں تھیں کیونکہ ان تمام امور میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ بعض لوگ افراط کا شکار ہیں اور بعض لوگ تفریط کا! کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ اجتماعی فعالیت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم گھر ، شوہر اور بچے داری کریں پس ہمیں اجتماعی فعالیت سے دستبردار ہوجانا چاہیے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر ، شوہر اور بچے داری کے مسائل اور جھمیلے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ہم اجتماعی اور معاشرتی امور میں قدم رکھیں پس ہمیں گھر بار کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ یہ دونوں فکر غلط ہیں۔ نہ اسے اُس کی خاطر اور نہ اسے اِس کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے۔

اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا کردار

عائلی اور خاندانی نظام زندگی میں ایک مسلمان عورت اپنے گھرانے میں بہت سے وظائف کی حامل ہے کہ جو گھرانے میں اُس کے بنیادی رکن ہونے ، تربیت اولاد، ہدایت اور شوہر کی روحی تقویت کرنے عبارت ہیں۔ ایران میں شاہی طاغوتی حکومت سے مقابلوں میں بہت سے مرد میدان مبارزہ میں نبرد میں مصروف تھے لیکن اُن کی خواتین نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ شاہی حکومت سے مقابلے کو جاری رکھیں ، کیونکہ ان میں اس بات کی قوت نہیں تھی کہ وہ مقابلے کی سختیوں کو تحمل کریں۔ اس کے برخلاف بہت سی خواتین اس مبارزے کی راہ میں استقامت اور ٹٹے رہنے پر نہ صرف یہ کہ اپنے شوہروں کی حوصلہ افزائی کرتیں تھیں بلکہ اُن کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اُن کی ہمتوں کو بلند رکھنے کیلئے روحی طور پر اُن کی پشت پناہی بھی کرتیں تھیں سن ۱۹۷۷ اور ۱۹۷۸ کے عوامی مظاہروں میں جب ملک کے کوچہ و بازار سب عوام سے بھرے پڑے تھے تو خواتین اپنے شوہروں اور بچوں کو مظاہروں ، شاہی حکومت سے مبارزے و مقابلے کرنے اور عوامی رضا کار فوجی (بسیج) کو فعال بنانے میں اہم اور کلیدی کردار کی حامل تھیں۔ انقلاب اور آٹھ سالہ تھونپی گئی جنگ کے دوران ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کو راہ اسلام میں سر بہ کف مجاہدوں اور دلیروں میں جبکہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو صاحب استقامت اور مضبوط انسان میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ بے اولاد اور شوہر کیلئے بیوی کا کردار اور اس کے عمل کی تاثیر۔ یہ وہ کردار ہے کہ جسے ایک عورت اپنے گھر میں ادا کر سکتی ہے اور یہ اُس کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے اور میری نظر میں عورت کا یہ کام اُس کے سب سے زیادہ اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت اور زندگی کے بڑے بڑے میدانوں اور امتحانوں میں قدم رکھنے کیلئے شوہر کی روحی طور پر مدد کرنا ایک عورت کے اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہماری مسلمان ایرانی خواتین نے اس میدان میں بھی سب سے زیادہ خدمات انجام دیں ہیں۔

البتہ ایران کی شجاع، ہوشیار، استقامت اور صبر کرنے والی خواتین نے انقلاب اور جنگ کے زمانے میں، خواہ محاذ جنگ پر ہوں یا محاذ جنگ کے پیچھے یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر بالعموم تمام میدانوں میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے اور آج بھی سیاست ، ثقافت اور انقلاب کے میدانوں میں بھی عالمی دشمنوں کے مقابلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔

وہ افراد جو ہمارے وطن اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں جب ان مصمم ارادوں، اس آگاہی اور شعور و شوق کا مشاہدہ کریں گے تو ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کے مقابلے میں ستائش و تعظیم کا احساس کریں گے۔ ۱

عورت ، گوہر ہستی

تیسری فصل

خواتین پر مغرب کا ظلم و ستم اور اسلام کی خدمات

الف: پہلی خدمت، انسانی اقدار کے سودا گروں کا ظلم اور اسلام کی پہلی خدمت

حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی ولادت باسعادت اور اُن کا تذکرہ مسلمان خواتین کیلئے بہترین فرصت ہے تاکہ اسلامی افکار و تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان عورت اور خواتین کی قدر و قیمت اور اہمیت پر بھرپور توجہ دی جاسکے۔ دیگر امور کی طرح، خواتین بھی انسانی اقدار کے سودا گروں کے ہاتھوں ایک جنس کے متاع بن گئی ہے۔ وہ افراد جو صنفِ نازک، خود انسان، انسانی اقدار اور کرامت و بزرگی کیلئے مال و دولت کے علاوہ کسی اور چیز کے قائل نہیں ہیں کہ افسوس ناک بات یہی ہے کہ یہ افراد مغرب کے موجودہ تمدن میں بہت اہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے خواتین کے مسئلے کو زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے لیے ایک سرمائے اور تجارت و سوداگری کے وسیلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ افراد آئے دن اس پر بحث کرتے ہیں، اپنی رائج ثقافت اور تہذیب و تمدن میں اسے ایک جائز مقام دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اس کے لئے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یوں دنیا کے تمام مردوں اور عورتوں کے اذہان کو ایک بڑی گمراہی اور سوسے سے دوچار کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور عورت سے متعلق اسلامی اقدار و احکامات میں غور و فکر اور مردو خواتین کی پیشرفت کیلئے اسلامی نظام میں وضع کیے گئے قوانین اور راہنما اصولوں میں سنجیدگی سے تامل کے ذریعے اپنے تشخص کا از سر نو جائزہ لیتے ہوئے اپنے وجود کو دوبارہ حاصل کرے۔ اُسے چاہیے کہ بے بنیاد مفروضوں و سفسطوں اور صیہونزم، سرمایہ داروں اور ثروت اندوز افراد کے وسوسوں میں دبے ہوئے اپنے حقیقی اور اصلی وجود کو نکالے۔

۱ مارچ ۱۹۹۷ میں صوبہ خوزستان میں خواتین کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب

ب: دوسری خدمت، عورت کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور خاندانی کردار پر بھرپور توجہ

اسلام نے زمانہ جاہلیت میں خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، خواہ یہ ظلم عورت کی روحانیت و معنویت، فکر اور اسلامی اقدار پر ہو یا سیاسی میدان میں اُس کی فعالیت پر یا اُس سے بھی بڑھ کر گھر اور خاندانی نظام زندگی میں اُس کے موثر ترین کردار پر۔ مرد و عورت دونوں مل کر معاشرے میں ایک چھوٹے سے اجتماع کو تشکیل دیتے ہیں جسے ”خاندان“ یا ”گھرانہ“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس مختصر سے اجتماع کیلئے معاشرے میں اقدار، احکام اور راہنما اصولوں کو صحیح انداز سے بیان نہ کیا جائے تو عورت پر سب سے پہلا ظلم خود اُس کے اپنے گھر میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھرانے میں اُس کے بنیادی کردار پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔

معنوی مسائل میں بھی خواتین، انسان کی معنوی حرکت میں وہ دستہ ہیں جو پیشرفت اور ترقی کے لحاظ سے آگے آگے ہے۔ قرآن جب مومن انسانوں کیلئے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ”وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتٍ فِرْعَوْنَ“ ۱ اور جہاں اسلام، ایمان، صبر، صداقت، اور اسلامی، معنوی اور انسانی اقدار کے حصول کیلئے جدوجہد کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ“ ۱۔ اس آیت اسلام، ایمان، اطاعت سچائی، صبر، فروتنی، صدقہ دینا، روزہ گزارا، عزت و ناموس کی حفاظت اور ذکر الہی جیسی دس معنوی اقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ مرد و عورت دونوں ان معنوی اقدار کے حصول کیلئے شانہ بشانہ حرکت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال دونوں کو ساتھ ذکر کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مردوں حتی عورتوں کے ذریعے بھی مرد کے لیے جس بت کی ہمیشہ پرستش کی جاتی رہی ہے اسلام نے ان آیات میں اُسے پاش پاش کر دیا ہے اور وہ سیاسی اور اجتماعی میدان میں عورت کے بیعت کرنے کی اہمیت اور اُس پر توجہ دینے کو لازمی امر اور ایک زندہ اور حقیقی مسئلے کی حیثیت سے متعارف کراتا ہے۔

۱ ”اللہ نے اہل ایمان کیلئے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے“۔ سورنہ تحریم / ۱۱

ج: تیسری خدمت، اسلامی نظام میں خواتین کی جداگانہ بیعت کی اہمیت

آپ ملاحظہ کیجئے کہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں حقوق نسواں کے دفاع میں ان بلند و بانگ نعروں اور اتنے مدعیوں کے باوجود جو تقریباً سب کے سب ہی جھوٹے ہیں، گزشتہ صدی کی ابتدائی دہائیوں تک خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی بات آزادانہ طور پر کہنے اور انتخاب کے حق سے محروم تھیں بلکہ انہیں مالکیت کے بھی حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ یعنی عورت اپنی میراث میں ملنے والے مال و ثروت کی بھی مالک نہیں تھی، اُس کا تمام مال و دولت اُس کے شوہر کے اختیار میں ہوتا تھا جبکہ اسلام میں خواتین کے بیعت کرنے، اُس کے حق مالکیت اور سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں اُس کے فعال اور موثر ترین کردار کو ثابت کیا گیا ہے۔ ”اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَيَّ اَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللّٰهِ“ ۲۔ خواتین پیغمبر اکرم ۰ کی خدمت میں آتی تھیں اور بیعت کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم ۰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف مرد آکر بیعت کریں اور اس بیعت کے نتیجے میں وہ جس چیز کے بارے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اظہار نظر کریں اور جس چیز کو بھی قبول کریں تو خواتین بھی مجبور ہیں کہ اُن کی بات کومن و عن قبول کریں، نہیں! انہوں نے کہا کہ خواتین بھی آکر بیعت کریں اور اس حکومت اور اس اجتماعی اور سیاسی نظام کو قبول کرنے میں شرکت کریں۔ اہل مغرب اس معاملے میں اسلام سے تیرہ صدیاں پیچھے ہیں اور آج بڑھ چڑھ کر یہ دعوے کر رہے ہیں (کہ گویا یہ سب انہی کا دیا ہوا نظام ہے)۔ مالکیت کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے اور سیاسی اور اجتماعی مسائل سے مربوط دیگر شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔

۱ مسلمان مرد و مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں۔“ سورنہ احزاب / ۳۵
۲ سورنہ ممتحنہ / ۱۲۔ ”اسے رسول ۰ جب آپ کے پاس مومنات بیعت کیلئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اُس کا شریک قرار نہیں دیں گی“۔

د: چوتھی خدمت، حضرت زہرا کی سیرت، اسلام میں خواتین کی سیاسی اور اجتماعی کردار پر واضح ثبوت

حضرت زہرا علیہا السلام کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہونا خواہ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہو یا ہجرت پیغمبر ۰ کے بعد مدینے میں آپ کی اجتماعی مصروفیات کا زمانہ ہو، آپ اُن تمام حالات و واقعات میں کہ جب آپ کے والد گرامی تمام سیاسی اور اجتماعی واقعات و حوادث کا مرکز تھے، بہ نفس نفیس موجود تھیں۔ یہ سب اسلامی نظام میں ایک عورت کے فعال اور موثر اجتماعی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ حضرت زہرا علیہا السلام ان سب فضائل میں سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ صدر اسلام میں اور بھی بہت سی نامور خواتین تھیں جو اپنی معرفت اور عقل و علم کے لحاظ سے ایک خاص مقام کی حامل تھیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سمیت حتیٰ میدان جنگ میں شرکت کرتی تھیں۔ کچھ خواتین تو اپنی شجاعت و شہامت کے ساتھ میدان جنگ میں جاکر تلوار بھی چلاتی تھیں۔ البتہ اسلام نے خواتین پر ان سب امور کو واجب نہیں کیا ہے اور اُن کے دوش سے یہ بار اٹھالیا ہے چونکہ یہ سب امور خواتین کی طبیعت و مزاج، جسمانی ترکیب و ساخت اور اُن کے احساسات سے میل نہیں کھاتے۔

ه: پانچویں خدمت، عورت، گھر میں ایک پھول ہے!

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ عورت سے ایک پھول کی مانند سلوک کرے۔ حدیث بنو ی ۰ میں ہے کہ ”الْمَرْأَةُ رِيْحَانَةٌ؟“ عورت ایک پھول ہے، یہ حقیقت سیاسی، اجتماعی اور تحصیل علم کے شعبے سے مربوط نہیں ہے بلکہ یہ گھر میں ایک عورت کے حقیقی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ ”الْمَرْأَةُ رِيْحَانَةٌ؟ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٌ“ ۱ (عورت ایک پھول ہے کوئی طاقتور انسان یا پہلوان نہیں ہے)۔ یہ خطا بین نگاہیں جو یہ گمان کرتی ہیں کہ عورت، گھریلو کام کاج کرنے کی پابند ہے، پیغمبر اکرم ۰ نے اپنے اس بیان کے ذریعے ان تمام غلط اور باطل فکر و خیال کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔

عورت، ایک پھول کی مانند ہے کہ جس کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اس جسمی و روحی لطافت و نرمی والے

موجود کو ان نگاہوں سے دیکھنا چاہیے ، یہ ہے اسلام کی نظر ۔ بالخصوص اس حدیث اور بالعموم تمام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی تمام زنانہ صفات و خصوصیات ، احساسات اور امید و آرزوؤں کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس پر کوئی ایسی چیز تھوپی نہیں گئی ہے جو اُس کی زنانہ فطرت، نسانہ عادات و صفات اور ایک پھول کی مانند اُس کے نرم و لطیف احساسات اور مزاج سے میل نہیں رکھتی ہو اور اُس کے ساتھ ساتھ اُس کے ایک عورت اور انسان ہونے کے باوجود اُس سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح سوچے، اس کی طرح کام اور جدوجہد کرے۔ لیکن اِس کے ساتھ ساتھ علم، معرفت ، تقویٰ اور سیاست کے میدان کی راہ اس پر کھلی ہے ، کسبِ علم سمیت سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں ترقی کرنے کیلئے اُسے شوق بھی دلایا گیا ہے۔ اب مرد سے یہ کہا گیا ہے کہ اُسے عورت سے گھر میں زبردستی کام کاج کرانے ، اپنی بات تھوپنے ، زیادہ روی کرنے ، جاہلانہ عادات و اطوار کے ذریعے اپنے مرد (اور گھر کے سرپرست) ہونے کا لوہا منوانے اور غیر قانونی (غیر اسلامی) ہتھکنڈوں کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی نگاہ۔

اسلامی انقلاب میں خواتین کا صبر و استقامت اور معرفت

یہی وجہ ہے کہ جب ایران کی اسلامی تحریک، اسلامی انقلاب کی دہلیز تک پہنچی تو ہماری خواتین نے اسلام کی خواتین کے بارے میں اِسی نظریے اور تعلیمات کی روشنی میں قدم اٹھائے اور سامنے آئیں۔ اسی وجہ سے امام خمینیؑ نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا کہ ”اگر خواتین اس تحریک میں مدد نہ کرتیں تو انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہوتا“۔ یقیناً اگر خواتین انقلاب کے زمانے میں ہونے والے بڑے بڑے عظیم الشان مظاہروں میں شرکت نہیں کرتیں تو انقلاب کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ آٹھ سالہ تھوپی گئی جنگ کی تمام مدت میں بھی انہی خواتین کی مانند تین تین شہیدوں اور دیگر شہدا کی مائیں اور بیویاں کہ مجھے ان جیسے ہزاروں افراد سے گفتگو کرنے اور نزدیک سے اُن کے احساسات کا مشاہدہ کرنے کا فخر حاصل ہے ، اگر اپنے جوان بیٹوں اور مردوں کی فداکاری کے نتیجے میں اُن کے زخمی جسموں اور کٹے ہوئے اعضاء و جوارح اور تمام مشکلات کا اپنے ایمان ، صبر ، استقامت ، معرفت اور شعور اور آگاہی سے جواب نہیں دیتیں تو جنگ کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ اگر ان شہدا کی مائیں اور بیویاں بے صبری کا مظاہرہ کرتیں تو مردوں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت کے جذبات ٹھنڈے پڑجاتے، یہ جو ش و خروش سامنے نہیں آتا اور ہمارے معاشرے کو اِس طرح جوش و ولولہ اور حوصلہ نہیں ملتا میدان جنگ میں بھی خواتین نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگر انقلاب کے مختلف مراحل ، مظاہروں اور انتخابات سمیت دیگر میدانوں میں خواتین اگر ایثار و فداکاری سے کام نہیں لیتیں اور اپنے فعال کردار کو ادا نہیں کرتیں تو یہ عظیم عوامی تحریک یقیناً آج اس صورت میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ ہے اسلام کی نظر اور اسلامی نظام میں خواتین کا کردار۔

۱ بحار الانوار، جلد ۱۰۰، صفحہ ۲۵۳

خواتین پر مغرب کا ظلم اور خیانت

اہل مغرب کو خواتین کے بارے میں اپنی خیانت کا ہر صورت میں جوابدہ ہونا چاہیے کیونکہ مغربی تہذیب و تمدن نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے جہاں کہیں بھی علمی ، سیاسی اور فکری پیشرفت اور ترقی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہ خواتین کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی یہ صورت حال سامنے آئے ہے، ایران ہویا دیگر ممالک، سب جگہ خود خواتین نے جدوجہد کی ہے۔

وہ چیز جس کو مغرب نے خود پروان چڑھایا اور مغربی تمدن نے جس عمارت کی ٹیڑھی بنیاد رکھی وہ ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد ، مرد و عورت کے آزادانہ تعلقات اور عریانی و فحاشی ہے۔ انہوں نے عورت کی نہ صرف یہ کہ گھر میں اصلاح نہیں کی بلکہ عورت کو (گھر سے باہر نکال کر) بے حیائی اور عریانی و فحاشی کی طرف کھینچ کر لے گئے ۔ امریکی اور یورپی اخبارات و مطبوعات میں بارہا خواتین کو دی جانے والی اذیت و آزار ، مشکلات، بے توجہی اور سنگ دلی کے واقعات اور خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ خواتین کو بے بند و باری، آزادانہ (جنسی و غیر جنسی) تعلقات اور عریانی و فحاشی کی طرف کھینچنے کے نتیجے میں مغرب کے خاندانی اور عائلی نظام کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں، وہاں گھرانے اور خاندان کا شیرازہ روز بروز بکھرتا جا رہا ہے اور اس بات کا سبب بنا ہے کہ وہ اور گھرانے اور خاندان میں مرد و عورت کی ایک دوسرے سے خیانت کو سہل انگاری سے دیکھیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ صنفِ نازک سے خیانت نہیں ہے؟

اس کثیف ترین ثقافت اور تمدن کے باوجود بھی یہ لوگ دنیا پر اپنی برتری کے خواباں ہیں جبکہ انہیں جوابدہ ہونا چاہیے! مغربی ثقافت کو خواتین کے بارے میں اپنے ظلم و خیانت کی وجہ سے دفاعی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے امور اور اقدامات کا دفاع کریں اور ان کی وضاحت کریں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور مستکبرانہ ذرائع ابلاغ کا مغربی معاشرے پر تسلط اور غلبہ اس حقیقت کو الٹا ہی پیش کر رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ حقوق نسواں کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں اور خود اُن کی اپنی اصلاح کے مطابق حقوق نسواں کے علمبردار و طرفدار ہیں! حالانکہ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ البتہ مغرب میں کچھ مفکرین، فلسفی حضرات اور سچے اور نیک انسانوں کا جود بھی ہے جو پاک نیتوں کے حامل ہیں اور (حق کی) بات کرتے ہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خواتین پر مغربی ثقافت اور تمدن کے ظلم و خیانت کی عمومی شکل ہے۔

خواتین کا اسلامی تشخص اور اُس کے تقاضے
 ایران (سمیت دیگر اسلامی ممالک) کی خواتین کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک مسلمان عورت کی حقیقی تشخص کو اس طرح زندہ کریں کہ وہ پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرا سکے۔ یہ ہے آج کی مسلمان عورت کا وظیفہ خصوصاً جوان خواتین اور اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کا۔
 اسلامی تشخص یہ ہے کہ عورت جب اپنی خاص زنانہ خصوصیات اور نساوانہ مزاج و تشخص کی حفاظت کرے کہ جو اس کی طبیعت و فطرت سے عبارت ہے اور ہر جنس (موجود) کی خصوصیات ہی اُس کی قدر و قیمت و اہمیت کا باعث ہوتی ہیں، یعنی جب ایک عورت اپنے نرم و نازک اور لطیف احساسات، پیار و محبت، عشق و چاہت اور خاص نساوانہ صفات کی حفاظت کرے تو اُسی کے ساتھ ساتھ معنوی اقدار کے میدان میں علم، تقویٰ، تقرب خدا، معرفت الہی اور وادی عرفان میں پیشرفت کرے اور ساتھ ہی سیاسی اور اجتماعی مسائل، صبر، استقامت، سیاسی فعالیت، سیاسی شعور، اپنے مستقبل، اپنے ملک سمیت دیگر اسلامی ممالک اور مسلمان اقوام کے بڑے اہداف، دشمن اور اس کی سازشوں اور چالوں کی شناخت میں روز بروز ترقی کرے اور اپنی اطلاعات اور آگہی کو زیادہ کرے۔ اسی طرح ایک عورت پر ضروری ہے کہ اپنے گھرانے اور خاندان میں عدل و انصاف اور پرسکون ماحول کے ایجاد اور اُن کی بقائے کیلئے بھی سرگرم رہے۔ ان تمام مسائل سے مربوط قوانین کا وجود اور اُن کی تصحیح اگر لازمی و ضروری ہے تو خواتین کو تعلیم، آگاہی، شعور اور معرفت کے ساتھ ان تمام میدانوں میں حرکت کرنی چاہیے اور وہ ایک مثالی عورت کا نمونہ پیش کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ مسلمان عورت ایسی عورت ہے جو اپنے دین، حجاب، نسوانیت اور اپنے مزاج کی نرمی و لطافت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے حق کا نہ صرف یہ کہ دفاع بھی کرتی ہے بلکہ معنویت، علم و تحقیق اور تقرب الہی کے میدان میں پیش رفت کرتے ہوئے مثالی خواتین کا نمونہ بھی پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ سیاسی میدان میں بھی اپنا فعال کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی عورت، مسلمان خواتین کیلئے اسوہ اور اُنٹیڈیل بن سکتی ہے۔ ۱

۲۱۱ ستمبر ۲۰۰۰ میں خواتین کے ایک بڑے جلسے سے خطاب

عورت، گوہر ہستی

چوتھا باب

حقوق نسواں کے دفاع کیلئے لازمی اصول

دریچہ

ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک میں اسلام کی طرف سے خواتین کیلئے تعین شدہ حقوق، حدود اور تعلیمات و احکام کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے اثبات و نفاذ کیلئے جو کوشش کی جائیں انہیں مغرب سمیت تمام ممالک

میں خواتین کی فعالیت پر توجہ دیتے ہوئے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح خواتین کی تحریکوں اور فعالیت کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے تاکہ اس طرح خواتین کے بارے میں ہونے والی واقعی اور فطری اصلاحات کا راستہ روک سکے۔ اسلامی نظام میں حقوق نسواں پر تحقیق کرنے والے افراد کو جن اصولوں کو ہر صورت میں مدنظر رکھنا چاہیے ان میں اسلامی احکام کی پابندی، اسلامی انٹیڈیل کی طرف توجہ، دوسروں کی تقلید اور ان کے عمل کو دیکھ کر حواس باختہ ہونے سے پرہیز کرنا، اخلاقی اور معنوی رشد کی طرف توجہ، عفت و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا، گھرانے اور خاندان کی بنیادوں کو مستحکم بنانا، خواتین کی خاص زنانہ فطرت اور طبیعت و مزاج پر بھرپور توجہ دینا اور خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کو بالخصوص گھر میں روکنا شامل ہیں۔ ان اصولوں کی رعایت اور پابندی، خواتین کے دفاع کی تمام تحریکوں کو کامیاب اور نتیجہ مطلوب تک پہنچانے کی۔ اس لیے کہ اسلام، بشری زندگی کے مختلف میدانوں میں مرد و عورت کی حقیقی اور فطری ضرورتوں کا جواب دینے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

پہلی فصل

خواتین سے متعلق فعالیت و جدوجہد کے اغراض و مقاصد

اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا کردار

اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین کے حقوق کے دفاع میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انقلاب کے بعد بی ایرانی عورت کی تکریم و تجلیل کی گئی ہے اور اس تجلیل اور عظمت کی بیان کرنے والی سب سے پہلی ہستی حضرت امام خمینیؑ کی تھی کہ جو اپنے پورے وجود کے ساتھ مسلمان اور ایرانی خواتین کی اہمیت و احترام کے قائل تھے۔ ان کے اس تفکر اور اورنگاہ کی وجہ سے ملک کی خواتین کو اسلامی انقلاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ درحقیقت اگر خواتین ایرانی قوم کی اس انقلابی تحریک میں شامل نہیں ہوتیں تو اس بات کا زیادہ احتمال تھا کہ یہ انقلاب اس شکل میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا یا سرے سے ہی کامیاب نہیں ہوتا، یا پھر اُسے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس بنائے پر خواتین نے انقلاب کیلئے مشکل کشائی کا کام انجام دیا ہے۔ جنگ میں بھی خواتین نے یہی کردار ادا کیا اور انقلاب کے دیگر مسائل میں بھی ابھی تک اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ بنابر اس، حقوق نسواں کیلئے بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود خواتین کے مسائل کے حل، حقوق کے اثبات، ان پر ہونے والے ظلم کے خاتمے اور ان کی فعالیت کی زمین ہموار کرنے کیلئے لازمی ہے کہ وسیع پیمانے پر ثقافتی کام انجام پائے چاہئیں۔ میں آج اس نیت سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس ثقافتی ماحول اور فضا کو وجود میں لانے میں مدد ہوسکے۔ اگر معاشرے کی ثقافتی فضا خواتین کے مسائل کے بارے میں شفاف ہوجائے اور اسلامی احکام اور قرآنی تعلیمات اس بارے میں واضح ہوجائیں تو یہ راستہ ہموار ہوجائے گا اور یوں ہماری خواتین ایک عورت کے شایستہ مقام اور اپنی غایت تک پہنچ سکیں گی۔ اگرچہ کہ یہ بحث و گفتگو ہے، سخن ہے، ایک بات اپنے کہے جانے کے مراحل سے گزر رہی ہے لیکن درحقیقت اپنے اسی مرحلے میں عمل بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بحث و گفتگو معاشرے کی ثقافتی فضا کو شفاف اور اذہان کو روشن کر دے گی۔

حقوق نسواں سے متعلق چند اہم ترین سوالات

ہم ان گزشتہ چند سالوں میں خواتین کے مسائل کے بارے میں ملک کی فکری اور ثقافتی فضا میں قابل ستائش کاموں اور جدوجہد کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی نکتے کی طرف اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خواتین کے حقوق یا ان کے کمال و ترقی، ان سے ظلم کے خاتمے اور خود خواتین کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ان تمام گفتگو سے ہمارا کیا ہدف و مقصد ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہر صورت میں دیا جانا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کو ان کے حقیقی مقام و منزلت دلانے کیلئے ہمیں کون سے شعار اور نعروں سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس ہدف تک رسائی کیلئے ہم کون سے وسائل کو بروئے کار لائیں؟ چونکہ آج مغربی ممالک اور اسی طرح ان ممالک میں جو مغربی ثقافت زدہ ہیں یا انہی کی بتائی ہوئی ثقافتی راہ پر گامزن اور اُس کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، حقوق نسوانی تحریک وجود رکھتی ہے اور وہاں بھی خواتین کی باتیں، فیمین ازم (Feminism) اور حقوق زن کے دفاع کی نیت سے ایک بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا آج جو ہم ایران میں بیان کر رہے ہیں یہ سب وہی ہے؟ کیا اُس جیسا ہے یا اُس سے بالکل مختلف ہے؟ چنانچہ اس مسئلے کیلئے اس سنجیدہ سوال کو بیان کیا جانا چاہیے

نیز لازمی ہے کہ اُس کا جواب بھی اسی طرح سنجیدگی سے دیا جائے۔ میں آج اس سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کروں گا اور اس بارے میں اسلام کی نظر کو بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
خواتین کے اپنے نقطہ مطلوب تک پہنچنے کیلئے ثقافتی اور خواتین کے حقوق کی جدوجہد کیلئے اجتماعی اور انفرادی لحاظ سے دو ہدف تصور کیے جاسکتے ہیں۔

۱۔ ہدف، انسانی اور اسلامی کمال تک عورت کی رسائی ہو
الف: پہلا ہدف

ایک ہدف یہ ہے کہ ہم عورت کے اُس کے کمال تک پہنچنے کیلئے خود اپنے وجود کو بروئے کار لائیں، جدوجہد کریں، موانع سے مقابلہ کریں، قلم اٹھائیں اور گفتگو کریں۔ یعنی عورت معاشرے میں اولاً اپنے انسانی اور حقیقی حق کو پائے، ثانیاً اُس کی استعداد و صلاحیتیں پروان چڑھیں، وہ اپنے حقیقی اور انسانی رشد کو حاصل کرے، نتیجے میں اپنے انسانی کمال تک پہنچے اور معاشرے میں ایک انسان کامل کی صورت میں ظاہر ہو۔ ایک ایسا انسان جو اپنے معاشرے اور عالم بشریت کی ترقی و بہبود کیلئے قدم اٹھائے اور اپنی محدود توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اس دنیا کو خوبصورت جنت اور بہشت بریں میں تبدیل کر دے۔

ب: دوسرا ہدف

دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو، جدوجہد اور اس مقابلہ کرنے کی وجہ سے چاہیں کہ ان دو جنس، مرد و عورت کے درمیان جدائی، رقابت اور نزاع کی حالت میں پیدا کریں اور رقابت و دشمنی کی بنا پر ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھیں۔ گویا اس انسانی معاشرے میں مرد ایک طرف ہیں اور خواتین ان کے مد مقابل اور یہ دونوں کسی نہ کسی مقام تک پہنچنے کیلئے آپس میں لڑ رہے ہیں اور خواتین یہ چاہتی ہیں کہ وہ یہاں مردوں پر غالب آجائیں۔ کیا ہمارا ہدف یہ ہے؟
پس اس جدوجہد، حرکت یا پھر اس تحریک کے ہدف کے بارے میں دو قسم کے نظریات تصور کئے جاسکتے ہیں۔ ایک ہدف کا نظریہ اسلامی ہے جبکہ دوسرا ہدف، ناقص نظر سے متعلق ہے۔ مغربی ممالک میں ہونے والی اکثر کوششیں سب سے زیادہ اسی دوسرے ہدف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اپنی گفتگو کے دوران ہم اس بارے میں مزید وضاحت کریں گے۔ لیکن ایک سوال کاجواب ضرور واضح ہونا چاہیے کہ خواتین کے حقوق یا اُن کے مسائل کیلئے کیا جانے والی کوششوں کا ہدف کیا ہے؟

۲۔ روش اور شعار کو اسلامی ہونا چاہیے

دوسرا سوال کہ جس کی اہمیت بھی پہلے سوال کی مانند بہت زیادہ ہے، یہ ہے کہ جب ہم عورت کے نام سے سخن کا آغاز اور اُس کا دفاع کرتے ہیں تو کون سے نعرے اور شعار لگاتے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور کس ہدف تک رسائی کیلئے کوشش کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے یہاں پر بھی اسلامی روش یعنی وہ چیز جو عورت کے بارے میں اسلامی تعریف، احکامات اور تعلیمات سے سمجھی جاسکتی ہے، اُس چیز سے بہت تفاوت رکھتی ہے کہ جو آج مغرب میں موجود ہے۔

مغرب میں آزادی کا غلط مفہوم

آج جو چیز مغرب میں ایک شعار و نعرے کی حیثیت سے موجود ہے اُس میں خواتین کی آزادی سرفہرست ہے۔ آزادی کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور مختلف معانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، قید سے آزادی، اخلاق سے آزادی کیونکہ اخلاق بھی ایک قسم کی قید و بند ہے، مرد کے سوئے استفادہ سے آزادی کہ جہاں مرد ایک عورت کو کم تنخواہ کیلئے کارخانے میں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس آزادی میں ان قوانین سے آزادی بھی شامل ہے کہ جو ایک بیوی کو شوہر کے مقابلے میں پابند بناتے ہیں غرضیکہ آزادی میں یہ تمام معانی شامل ہیں۔ خواتین سے متعلق ان شعار میں بہت سے ایسے مطالب اور مطالبات بھی شامل ہیں جو مکمل طور پر ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں۔ بالآخر آزادی کا معنی کیا ہے؟

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں اس آزادی سے جو معنی سمجھا گیا ہے وہ غلط اور نقصان دہ ہے یعنی یہی خاندان (کی ظاہری) قید و بند ۱ سے آزادی، مرد کے مطلق نفوذ سے آزادی حتی شادی، خاندان کی تشکیل اور اولاد کی تربیت کی قید سے آزادی۔ جہاں بھی یہ امور شہوت رانی و جنسی خواہشات کی آزادانہ تکمیل کے مقابلے میں سامنے آتے

ہیں تو اپنی شہوت پرستی کو آزادی کا نام دے دیا جاتا ہے نہ کہ آزادی کا صحیح معنی ان کے پیش نظر ہو۔ لہذا آپ ملاحظہ کیجئے کہ مغرب میں کی جانے والی آزادی کی گفتگو میں اسقاط حمل کی آزادی بھی شامل ہے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو ظاہر میں بہت ہی سادہ لیکن درحقیقت بہت ہی خطرناک اور بہت زیادہ قابلِ اہمیت ہے۔ اسقاط حمل کی آزادی کا نعرہ و مطالبہ آج مغرب میں بہت عام ہے لہذا اس مسئلے کو آزادی نسوان کی تحریک کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے۔

۱ مغربی خاندانی نظام زندگی میں جہاں میاں بیوی اپنی جنسی اور دیگر خواہشات کی تکمیل کیلئے ایک دوسرے پر اکتفا نہیں کرتے تو ایک میاں یا بیوی پر اکتفا کرنا یا دیگر خاندانی قوانین کی پابندی کرنا خود اہل مغرب کیلئے ایک قسم کی قیدوبند ہے کہ جس سے چھٹکارے کا نام وہاں آزادی رکھا گیا ہے۔ (مترجم)

ایک صحیح نظام، ایک (غلط چیز سے) صحیح مقابلے اور ایک صحیح مطالبے میں یہ غیر ممکن ہے کہ اُس کا ہدف اتنا وسیع ہو اور اُس کا ایک حصہ قطعی طور پر اتنا مضر ہو اگرچہ ممکن ہے کہ کچھ اور حصے مفید ہوں لہذا اس سے بہتر مناسب، تر اور صحیح شعار کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔

میری گفتگو کا اصلی محور آپ محترم خواتین مخصوصاً جوان لڑکیاں ہیں کہ آپ اس دنیا میں لمبی زندگی گزاریں گی لہذا آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں خداوند عالم نے انسانی کمال کیلئے جو امکانات رکھے ہیں اُن سے صحیح استفادہ کریں، اُن کی صحیح شناخت حاصل کریں اور ان کے صحیح راستے سے آشنا ہوں۔ اس کیلئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کیلئے خواتین سے ظلم کے خاتمے کا مسئلہ بیان کیا جائے گا تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور جو چیز آپ کیلئے لازمی ہے وہ کیا ہے؟ اور جو آپ کیلئے نقصان دہ ہے وہ کیا امور ہیں؟ لہذا یہ نکتہ آپ کیلئے بہت اہمیت کا حامل ہے۔

۳۔ جدوجہد، تقلیدی اور کسی سے متاثر نہ ہو

ہر اجتماعی تحریک اُس وقت صحیح کہلانے جانے کی مستحق ہے اور اُس وقت صحیح نتائج کو حاصل کرے گی کہ جب وہ عقل و خرد، غور و فکر، تشخص کی قوت، مصلحت شناسی اور عقل و منطقی اصولوں پر قائم ہو۔

حقوق زن کے اثبات و نفاذ کیلئے چلائی جانے والی ہر تحریک میں انہی مطالب کو مدنظر رکھنا چاہیے، یعنی ہر قسم کی تحریک کو عاقلانہ بنیادوں اور عالم ہستی کے حقائق کے مطابق یعنی مرد و عورت کی جداگانہ طبیعت و مزاج اور فطرت سے آشنائی، مرد اور خواتین کی اپنی اپنی خاص ذمہ داریوں اور مشاغل کی پہچان اور ہر اُس چیز کی شناخت کے ہمراہ ہو جو اُن کے درمیان مشترک ہوسکتی ہے، انجام پانا چاہیے اور یہ کوشش اور جدوجہد کسی سے متاثر اور تقلیدی نہ ہو۔

اگر کوئی تحریک کسی دوسری تحریک سے متاثر ہو اور اندھی تقلید پر اُس کی بنیاد رکھی جائے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اگر کچھ لوگ ہمارے ملک و معاشرے میں خواتین اور ان کے حقوق کی اس لئے بات کریں کہ مغربی مجلات یا مغرب کے سیاسی افراد کی رپورٹ میں ایران پر اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ایران حقوق نسوان کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اس مقصد کے ساتھ کام کرنا سراسر غلطی ہے۔ اس ہدف کے ساتھ اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ راستہ انحراف و غلطی پر ہی ختم ہوگا۔ اگر ہم اس ہدف کے ساتھ خواتین کے دفاع کے میدان میں قدم رکھیں کہ ہم کہیں مغرب سے پیچھے نہ رہ جائیں تو یہ غلطی ہے یا اگر اس قصد سے وارد میدان ہوں کہ وہ ہم پر بری اور منفی نظر نہ ڈالیں یا اس تصور و خیال سے حقوق نسوان کیلئے اقدامات کریں کہ مغرب و یورپ نے اس سلسلے میں بالکل صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے تو یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ان تمام اہداف اور نیت کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھنا سراسر غلطی ہے۔

افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہم کچھ ایسے مقالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو خواتین کے دفاع میں تحریر کیے جاتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے اثبات کیلئے مختلف قسم کی سخن و گفتگو زبان پر جاری ہوتی ہیں لیکن یہ سب (مغربی ثقافت و معاشرے میں خواتین کیلئے کی جانے والی فعالیت کا) رد عمل ہے اور اُن سے مرعوب و متاثر بھی ہے۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل مغرب فلاں بات کہتے ہیں، اہل یورپ نے اس طرح لکھا ہے اور ہماری طرف فلاں بات کی اس طرح نسبت دی ہے (تو ہم ان کی بات کے مقابلے میں اس طرح لکھیں گے یا تحریر کریں گے)۔ اگر ہم حقوق نسوان کے بارے میں اپنے دفاع کیلئے ایسی کوئی بات کریں یا کوئی قدم اٹھائیں تو یہ ہمارا اقدام مکمل طور پر ہمیں ہمارے صحیح ہدف سے منحرف کر دے گا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم ہستی میں جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ یہ حقائق سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔

۴۔ جدوجہد کو اسلامی اُنیڈیل کے مطابق ہونا چاہیے

اسلام، انسانی کمال اور ارتقا کا طرفدار ہے اور اس بارے میں اسلام مرد و عورت کے درمیان کسی قسم کے فرق کا قائل

نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں مرد یا عورت ہونا اہم نہیں بلکہ ان کا روحانی ارتقا اور کمال اُس کے پیش نظر ہے۔ ایک جگہ مرد کے متعلق بات کی جاتی ہے تو دوسری جگہ خواتین کے بارے میں، ایک جگہ خواتین کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے تو دوسرے مقام پر مرد کو سراہا جاتا ہے چونکہ دونوں پیکر بشریت کے حصے ہیں اور وجود بشری کی تکمیل دونوں کے وجود سے ہے۔ یہ دونوں موجود اپنے بشری اور خدائی جہت کے لحاظ سے آپس میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خداوند عالم اچھے یا برے انسانوں کیلئے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو عورت کی مثال پیش کرتا ہے۔ ”صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٌ نُوحٍ وَ امْرَأَتٌ لُوطٍ“ اور جب اہل ایمان کیلئے مثال بیان کرتا ہے تو ”امْرَأَتٌ فِرْعَوْنُ“ کو پیش کرتا ہے۔ دونوں جگہ خداوند عالم نے اچھی اور بری راہوں کی مثال میں عورت کو ذکر کیا ہے۔

مرد و عورت ہونا اہم نہیں بلکہ وظیفے کی ادائیگی اہم ہے اسلام کیلئے مرد یا عورت ہونا اہم نہیں ہے (بلکہ اصل چیز ذمے داری اور وظیفے کی ادائیگی ہے)۔ اسلام کے نزدیک اہم چیز بشری ارتقا، اخلاق اور استعداد و صلاحیت کا پروان چڑھنا ہے اور وہ وظائف اور ذمے داریاں ہیں جو ان دونوں جنس سے مربوط ہیں، اسلام کے نزدیک یہ امور اہمیت رکھتے ہیں اور اس کیلئے دونوں کی طبیعت و مزاج اور فطرت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو مرد و عورت کی طبیعت و مزاج سے اچھی طرح واقف ہے۔ جو چیز اسلام کے پیش نظر ہے وہ توازن اور عدالت ہے یعنی تمام انسانوں سمیت مرد و عورت کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا۔ اسلام مرد و عورت کے درمیان حقوق کی برابری کو بیان کرتا ہے لیکن بعض مقامات پر ممکن ہے کہ مردوں کے احکامات، خواتین سے فرق رکھتے ہوں جیسا کہ مرد و عورت کی طبیعت و مزاج، بعض عادات و خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بنا بریں، مرد و عورت کے مابین سب سے زیادہ حقائق اور فطری مسلمات اور خاص بشری عادات و خصوصیات سے متعلق احکامات صرف اسلامی تعلیمات میں ہی موجود ہیں۔

حقوق نسواں کے دفاع کی لازمی شرائط اگر ہم آج ملک کی خواتین کے بارے میں ایک حقیقی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ خواتین اپنے مطلوب مقام تک پہنچ سکیں تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی احکامات کو برصورت میں مدنظر رکھیں اور انہی کو اپنا مرکز و محور قرار دیں۔ ہماری روش اور طریقہ عمل کو اسلامی احکامات ہی معین کرتے ہیں۔ اسلام ہر اُس روش اور طریقہ کار کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا اور قبول کرتا ہے جو عقل و خرد کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ اگر کسی جگہ سے کوئی تجربہ ملے تو وہ اسلام کو قبول ہے لیکن اندھی تقلید کسی بھی صورت میں اسلام کو قبول نہیں ہے، یعنی دوسروں کے تجربات اور عقائد اور خردمندانہ اطوار و روش درست ہے لیکن اندھی تقلید منع ہے۔ لہذا آج جو افراد ہمارے ملک میں حقوق نسواں اور خواتین کے رشد اور اُن کی استعداد و صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس ہدف کے حصول کیلئے سرگرم عمل ہیں اور انہیں اس ہدف تک رسائی کیلئے کن شعاروں، نعروں اور منصوبوں کو بیان کرنا چاہیے۔

ہدف و مقصد صرف اسلامی ہو جی ہاں! اسلامی معاشرے اور ہمارے سماج میں خواتین کے حقوق کے اثبات و نفاذ کیلئے حتماً کوششیں کی جانی چاہئیں لیکن اسلامی افکار و تعلیمات کے ساتھ اور اسلامی ہدف کے حصول کی خاطر۔ کچھ افراد یہ نہ کہیں کہ یہ کون سی (اسلامی) تحریک اور جدوجہد ہے، کیا ہمارے سماج میں عورت کو کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ اگر بعض افراد ایسی فکر کے حامل ہوں تو یہ قابل افسوس بات ہے اور یہ صرف ظاہری صورت حال کو مدنظر رکھنے کے مترادف ہے۔ عورت ہمارے معاشرے سمیت دنیا کے تمام معاشروں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے حقوق کے لحاظ سے کمی کا شکار رہی ہے اور یہ سب اُس پر تھوپی جانے والی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اُس کے حقوق کی ادائیگی میں یہ کمی و کوتاہی ہے بند و باری اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزادی کی طرف سے ہونے والی کمی و کوتاہی نہیں ہے بلکہ یہ مختلف شعبہ ہائے زندگی اور علم و معرفت، تربیت و اخلاق اور صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کیلئے وقت و لمحات سے صحیح استفادہ نہ کرنے کی کمی اور کوتاہی ہے۔ لہذا اس کمی اور کوتاہی کو برطرف کرنے اور اس کا ازالہ کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے اور یہ وہی چیز ہے کہ جس پر اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔

اگر اسلامی معاشرہ، خواتین کی اسلامی آئیڈیل شخصیات یعنی حضرت زہر علیہا السلام، حضرت زینب علیہا السلام اور باعظمت خواتین جو دنیا اور تاریخ کو متاثر کر سکیں، کے زیر سایہ تربیت کر سکے تو اس وقت عورت اپنے حقیقی بلند مقام

کو حاصل کر لے گی۔ اگر عورت معاشرے میں علم و معرفت، معنوی کمالات اور اخلاق کے عالی ترین درجات کو حاصل کرے جو خداوند عالم نے تمام انسانوں کیلئے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، ایک آئین کی صورت میں مدنظر رکھا ہے تو نتیجے میں اولاد کی بہترین تربیت ہوگی، گھر کا ماحول پہلے کی نسبت زیادہ محبت و چاہت والا ہوگا، انسانی معاشرے کیلئے پہلے کی نسبت ترقی کی راہیں زیادہ کھلیں گی اور زندگی کی مشکلات زیادہ آسانی سے حل ہوجائیں گی یعنی مرد و عورت دونوں خوشبختی سے ہمکنار ہوں گے۔ ان اہداف کے حصول کیلئے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہدف یہی ہے۔ اس تمام تحریک و فعالیت کا مقصد صنف نازک کے مقابلے میں صف آرائی اور مرد و عورت کے درمیان عداوت و رقابت ایجاد کرنا نہیں ہے بلکہ ہدف یہ ہے کہ خواتین و لڑکیاں وہی کام انجام دینسکیں کہ جس کے مطابق مردوں نے جب بھی قدم اٹھایا وہ عظیم انسان بنے تو خواتین بھی اسی راہ کے ذریعے عظیم انسان بن سکیں۔ یہ عین ممکن ہے اور اسلام میں یہ بات تجربہ شدہ ہے۔

آمنہ بنت الہدیٰ ، ایک جلیل القدر خاتون!

میری بہنو! میری بیٹیو اور اسلامی ملک کی خواتین! آپ جان لیجئے کہ ہر زمانے، ہر ماحول اور ہر گھرانے میں عورت نے اس طرح کی تربیت کے ساتھ رشد کیا ہے اور اپنی عظمت کو پایا ہے۔ یہ بات صدر اسلام کی خواتین ہی سے مخصوص نہیں تھی بلکہ کفر اور ظلم و تشدد کے سیاہ ترین دور میں بھی یہ سب ممکن ہے۔ اگر ایک گھرانے نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح تربیت کی ہے تو یہ بیٹی ایک عظیم انسان بنی ہے۔ اس کی زندہ مثالیں ایران، ایران سے باہر اور خود ہمارے زمانے میں موجود تھیں۔ ہمارے اسی زمانے میں (اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل) ایک جوان، شجاع، عالم، مفکر اور ہنرمند خاتون ”بنت الہدیٰ“ (آیت اللہ سید محمد باقر شہید ۲ کی خواہر) نے پوری تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا، وہ مظلوم عراق میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئیں اور درجہ شہادت کو حاصل کیا۔ بنت الہدیٰ جیسی خاتون کی عظمت و شجاعت، عظیم مردوں میں سے کسی ایک سے بھی کم نہیں ہے۔ اُن کی فعالیت ایک زنانہ فعالیت تھی اور ان کے برادر کی جدوجہد و فعالیت ایک مردانہ کوشش تھی لیکن دونوں کی جدوجہد و فعالیت دراصل کمال کے حصول اور ان دونوں انسانوں کی ذات اور شخصیت کے جوہر و عظمت کی عکاسی کرتی تھی۔ اس قسم کی خواتین کی تربیت و پرورش کرنی چاہیے۔

خود ہمارے معاشرے میں بھی ان جیسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شاہی ظلم کے زمانے میں کم و بیش ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ شاہی حکومت سے مقابلے اور اسلامی نظام کے قیام کے زمانے میں بہت سی عظیم خواتین تھیں۔ ان عظیم القدر خواتین نے اپنے دامن میں شہدا کی پرورش کی، انہوں نے اپنے شوہروں یا فرزندوں کو فداکار انسانوں کی صورت میں معاشرے کو تحویل دیا تاکہ وہ اپنے وطن و انقلاب اور اپنی قوم اور اُس کی عزت و آبرو کا دفاع کر سکیں۔ یہ سب ان عظیم خواتین کا صلہ ہے اور یہ خواتین بڑے اور عظیم کاموں کو انجام دینے میں کامیاب ہوئی ہیں کہ جن کی ایک کثیر تعداد سے میں خود آشنا ہوں۔

حقوق نسواں کی طرف مغرب کے مجددانہ رجوع کی وجہ

آج ان لوگوں کی کثیر تعداد جو سینے پر حقوق نسواں کا تمغہ لگائے پھرتے ہیں دراصل وہ مغرب کی دی ہوئی آزادی اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد زندگی کا تمغہ لگائے ہوئے بینوہ درحقیقت اہل مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہی افراد ہیں جو کبھی قلم اٹھا کر کچھ لکھ دیتے ہیں۔ انقلاب کی کامیابی کے اٹھارہ سال ۱ بعد خواتین کی ظاہر ہونے والی عظمت و بزرگی میں ان افراد کا کوئی کردار اور حصہ نہیں ہے۔ ان افراد کی کثیر تعداد صرف اپنی جیب کی فکر، درآمد کے حصول، اپنے راحت و آسائش اور اپنی زینت و آرائش کے وسائل کی جمع آوری میں مصروف تھی۔ ان افراد کو کوئی فضیلت و بزرگی حاصل نہیں ہے اور ان کا استعمال شدہ (مغربی) نسخہ غلط تھا۔ اگر خواتین کے بارے میں مغربی نسخہ صحیح ہوتا تو مغرب مجبور نہ ہوتا کہ ستر، اسی، سو سال بعد ایک دفعہ پھر حقوق زن کی تحریک کو از سر نو شروع کرے کہ ابھی کچھ سالوں اور کچھ دہائیوں قبل انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے۔

ابھی دس، بیس سال ہی ہوئے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے حقوق اور اُن کی آزادی کے عنوان سے کچھ اور تحریکیں دوبارہ شروع کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اگر مغرب کی دی ہوئی آزادی، کامیابی اور مکمل آزادی ہوتی اور اگر خواتین کے حقوق کا دفاع، ایک سچا اور حقیقی دفاع ہوتا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ سو سال بعد کچھ افراد اُنیں اور تحریک دوبارہ شروع کریں اور شور و غوغا برپا کریں۔ پس معلوم ہوا کہ اُن کا وہ نسخہ بھی غلط تھا اور یہ نسخہ بھی غلط ہے اور اس کا نتیجہ سوائے مرد و عورت بالخصوص عورت کیلئے بدبختی اور مشکلات کھڑی کرنے کے علاوہ کسی اور صورت میں سامنے نہیں آئے گا۔

دوسری فصل

اسلامی روش اور احکامات

خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلامی روش

مذکورہ بالا روش اسلامی روش نہیں ہے۔ خواتین کے حقوق کے دفاع کیلئے اسلام کا ہدف یہ ہے کہ عورت، ظلم و ستم کا شکار نہ ہو اور مرد خود کو عورت کا حاکم نہ سمجھے کیونکہ گھر و گھرانے میں اسلام نے مرد و عورت دونوں کیلئے حدود و حقوق کو معین و مشخص کیا ہے۔ مرد کے اپنے حقوق ہیں اور عورت کے اپنے حقوق، اور ان تمام حقوق و حدود کو ایک سخت عادلانہ مگر متوازن نظام کے زیر نظر ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں اور غلط ہیں ہم نہ ان کو بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اسلام سے تعلق رکھتی ہے وہ اسلام کے ہیں، واضح اور مسلم اصول ہیں اور یہ وہ امور ہیں جو گھر کے ماحول میں مرد و عورت دونوں کیلئے حقوق میں توازن کے قائل ہیں۔

شوہر اور بیوی کا آرام و سکون بخش وجود

آپ اس آیہ مبارکہ کی طرف توجہ فرمائیے کہ جو مرد و عورت خصوصاً گھر کے ماحول میں ایک اہم امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا“ ۱۔ خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اُس نے تم انسانوں کیلئے خود تم میں اور تمہاری جنس (انسان) سے ہی تمہارے جوڑے (ہمسر) بنائے ہیں۔ آپ مردوں کیلئے خواتین اور آپ خواتین کیلئے مردوں کو خلق کیا ہے۔ یہ آپ ہی سے ہیں، ”مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ کسی اور جنس سے نہیں ہیں، کوئی الگ انسانی وجود نہیں ہے بلکہ ایک ہی حقیقت اور ایک ہی جوہر اور ایک ہی ذات ہے (جو انسان ہونے سے عبارت ہے)۔ البتہ یہ بات مشخص ہے کہ یہ دونوں اپنی بعض صفات و خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں چونکہ ان کے وظائف اور ذمے داریاں مختلف ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ”لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا“ ۱ (تاکہ تم اُن سے سکون حاصل کرو)۔ طبیعت بشری میں زوجیت (جوڑے کا بننا) اور دو جنس (مرد و عورت) ہونا ایک بہت بڑا ہدف ہے اور وہ ہدف، آرام و سکون سے عبارت ہے تاکہ آپ انسان اپنی جنس مخالف سے اپنے گھر میں، شوہر، بیوی سے اور بیوی، شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں آرام و سکون پائے۔ مرد کیلئے گھر میں آنا، گھر کے پرسکون ماحول میں سانس لینا، مہربان، دوست اور امین بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا آرام و سکون کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح بیوی کیلئے بھی شوہر کا وجود ایک ایسی مضبوط پناہ گاہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اور اس کا شوہر اس کی خوشبختی اور سعادت کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں گھر ہی دونوں کیلئے فراہم کرتا ہے۔ مرد کو آرام و سکون حاصل کرنے کیلئے گھر کے پر فضا ماحول میں بیوی جیسے ایک انیس و محبوب کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت بھی اپنے راحت و آرام کیلئے گھر کی چار دیواری میں ایک مضبوط و مستحکم شوہر کی محتاج ہے۔ ”لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا“۔ دونوں کو سکون و آرام کیلئے ایک دوسرے کے ضرورت مند اور محتاج ہیں۔

۱ سورئہ روم/۲۱

سب سے اہم ترین چیز کہ بشر جس کا محتاج ہے، وہ آرام و سکون ہے۔ ایک انسان کی (دنیاوی) سعادت یہ ہے کہ وہ روحی طور پر تلاطم و اضطراب سے امان میں ہو اور اس کی روح مکمل سکون میں ہو اور یہ روحانی آرام و سکون ایک گھرانہ ہی انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو، عطا کرتا ہے۔ اس آیت کا اگلا جملہ بہت دلچسپ اور خوبصورت ہے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ”وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“۔ (اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت کو قرار دیا ہے)۔ میاں بیوی کے درمیان صحیح رابطہ، مودت و رحمت اور دوستی و مہربانی کا رابطہ ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریبی اور سچے

دوست بنیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوں اور ایک دوسرے سے عشق کرنے والے ہوں۔ عشق کرنا، غصے، برہمی اور تند و تیز لب و لہجے کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے اسی طرح محبت کے بغیر مہربانی بھی قبول نہیں۔

عورت پر ہونے والے ظلم کی مختلف شکلیں

ایک گھرانے کی فضا میں شوہر اور بیوی کو عطا کی گئی خدائی فطرت اور طبیعت و مزاج یہ ہے کہ وہ دو جیون ساتھیوں کے درمیان عشق محبت اور مہربانی کا رابطہ برقرار کرے۔ یہ ہے ”مَوَدَّةٌ رَّحْمَةٌ“ کا معنی۔ اگر پیار و محبت اور تعاون کا یہ رابطہ بدل جائے اور مرد گھر میں صرف اپنی مالکیت کا حق جتانے لگے اور بیوی کو ایک کام کرنے والے موجود اور بیوی اور اُس کی استعداد و توانائی کو اپنے لیے قابل استفادہ بنانے کی حیثیت سے دیکھنے لگے تو یہ ظلم ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں۔ گھر سے باہر کی فضا و ماحول میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر عورت تحصیل علم یا کام اور کسبِ معاش اور اپنے استراحت و آرام کیلئے امن و آمان کا ماحول نہ پائے تو یہ بھی اُس پر ظلم و ستم ہے۔ جو بھی اس ظلم کو انجام دے تو اُسے اسلامی قانون اور اسلامی تعلیمات کے مقابلہ اور مواخذہ کا سامنا کرنا ہوگا۔

۱ حوالہ سابق

اگر عورت کو تحصیل علم اور معرفت حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اُس پر ظلم ہے یا اگر زندگی میں خواہ میکا ہو یا سسرال، حالات اس طرح کے ہوں کہ وہ زیادہ کام کاج اور مختلف گھریلو ذمے داریوں کی وجہ سے اپنے اخلاق، دین اور معرفت کی صحیح اصلاح نہ کر سکے تو یہ امور بھی ظلم میں شامل ہیں۔ اسی طرح عورت کا اپنے ہی مال و دولت کو (خواہ اُسے کہیں سے بطور تحفہ ملے یا میراث و تنخواہ سے اُس کے پاس آئے) اپنے ارادے اور اختیار سے استعمال نہ کرنا بھی ظلم ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ شادی اور جیون ساتھی کے انتخاب کے موقع پر اگر کوئی مرد شوہر کے عنوان سے اُس کے سر پر تھونپ دیا جائے یعنی وہ اپنے شوہر کے انتخاب میں شامل نہ ہو اور اس کا رشتہ اُس کے اپنے ارادے، میل اور پسند کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی عورت پر ظلم ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت کیلئے خواہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں سکونت پذیر یا ہو اپنے شوہر سے جدائی (اور طلاق) کے بعد الگ رہ رہی ہو، اپنے فرزند کو اپنی ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم نہ کر سکے اور نہ ہی اپنے جگر گوشے کے معصوم وجود سے استفادہ کر سکے تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر عورت علمی میدان میں پیشرفت، اختراع اور تحقیق و ریسرچ اور سیاسی و اجتماعی فعالیت کی استعداد و صلاحیت کی مالک ہے لیکن اسے ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے اور اُس کی یہ صلاحیتیں پروان نہ چڑھیں تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔

ممکن ہے ایک معاشرے میں انواع و اقسام کے ظلم موجود ہوں چنانچہ ان سب ظلم و ستم کو عورت سے ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد و عورت دونوں کی ذمے داریوں اور وظائف کو کہ یہ دونوں خاندان کی تشکیل میں ایک دوسرے کی نسبت و وظائف رکھتے ہیں، اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ مرد و عورت دونوں کی سعادت اسی میں ہی ہے۔ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ مردوں کی بہ نسبت عورتوں کی مجموعی فعالیت میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے اور پر جنجال قسم کے مشاغل اور کام نہیں رکھتی ہیں۔ نہیں جناب! عورت کی مشکل یہ نہیں ہے۔ حتیٰ وہ عورت کہ جو بڑے مشاغل اور کام وغیرہ میں مصروف ہے وہی عورت، گھر کے پرسکون ماحول، ایک مہربان، محبت کرنے والے، ایک مطمئن اور ہمدرد تکیے گاہ کی شکل میں اپنے شوہر کی محتاج ہے۔ خواتین کی روحی اور احساساتی ضرورت اور اُن کی طبیعت و مزاج یہ ہے اور اُن کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔

مشاغل اور ملازمت کا مسئلہ بالکل جدا ہے لیکن یہ عورت کا پہلے درجے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اسلام خواتین کے مشاغل اور دیگر وظائف اور فعالیت کی راہ میں ممانع نہیں ہے مگر چند استثنائی مقامات پر کہ جن میں سے بعض پر فقہا متفق القول ہیں اور بعض کے بارے میں اُن کے درمیان علمی اختلاف موجود ہے کہ ان تمام مسائل کے بارے میں تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن عورت کا اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ملازمت یا کام کرتی ہے یا نہیں بلکہ اُس کے اصلی اور بنیادی مسائل یہ ہیں جنہیں آج مغرب میں یکسر فراموش کر دیا گیا ہے، جو مغرب میں دم توڑ گئے ہیں اور وہ اُس کے آرام و سکون، امن و آمان کے احساس، اُس کی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے امکانات کی فراہمی، اپنے باپ اور شوہر کے گھر سمیت معاشرے میں اس پر ظلم نہ ہونے وغیرہ جیسے اہم ترین مسائل ہیں لہذا جو افراد خواتین کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان تمام مسائل کے حل کیلئے بھی اقدامات کریں۔

عورت ، گوہر ہستی

تیسری فصل

حقوق نسواں کے دفاع کیلئے بنیادی نکات چند اساسی نکات کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں کہ جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔

۱. معنوی اور اخلاقی امور کی طرف توجہ

پہلا نکتہ:

سب سے پہلی بات تو یہ کہ معنوی اور اخلاقی لحاظ سے خواتین کے فکری ارتقا اور رشد کا نکتہ خود خواتین کے درمیان توجہ کا مرکز قرار پائے اور خود خواتین سب سے زیادہ اس مسئلے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ انہیں چاہیے کہ اسلامی معارف، تعلیمات، مطالعہ اور زندگی کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ مغرب کی غلط تربیت اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس ملک میں طاغوتی حکومت کے زمانے میں خواتین کو بیہودہ قسم کی عیاشی، عیش پرستی، خودنمائی اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد زینت و آرائش اور اپنے وجود اور جسم کو ہر ذریعے سے نامحرم مردوں کیلئے قابل توجہ بنانے کا موقع ملا کہ یہ سب معاشرے پر مردانہ حاکمیت کی نشانیوں ہیں۔ مغرب میں مردانہ حاکمیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت کو صرف مرد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت زینت و آرائش کرے تاکہ مرد اُس کے وجود میں لذت حاصل کرے! یہ مردانہ حاکمیت کی واضح دلیل ہے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں درحقیقت مرد کی آزادی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مرد آزاد رہے خواہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہی لذت حاصل کیوں نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو مرد کے سامنے بے پردگی، بے حجابی، زینت و آرائش اور ہر و سیلے کے ذریعے اپنے وجود و بدن کو نمایاں اور قابل توجہ بنانے کیلئے شوق و رغبت دلاتے ہیں۔ البتہ مرد کی یہ خود خواہی صرف مذہبی معاشروں ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ قدیم ایام میں بہت سے مرد اس خود خواہی میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں جبکہ مغربی افراد اس (غیر انسانی اور) جاہلانہ فکر کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ لہذا عورت کے علم و معرفت و آگاہی و شعور، کسب معلومات و اسلامی تعلیمات کے حصول کیلئے اقدام کرنے کا مسئلہ خود خواتین کے درمیان نہایت سنجیدگی کے ساتھ زیر غور آنا چاہیے اور لازمی ہے کہ اُسے اہمیت دی جائے۔

دوسرا نکتہ:

دوسری بات یہ کہ کچھ قوانین کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرد یا عورت سے سلوک و برتاؤ اور معاملے کے بعض قواعد نین کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ لہذا اس شعبے کے ماہرین کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور قوانین کی اصلاح کریں۔

۲۔ حقوق نسواں کے بارے میں اسلام کی نظر پر توجہ

ایک اور مسئلہ جو اہم ترین امور سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے کہ مرد و خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام کی نظر کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ خود خواتین اس میدان میں کام کرین لیکن سب سے زیادہ وہ افراد اقدامات کریں جو اسلامی تعلیمات کے ماہرین ہیں تاکہ یہ لوگ ان مقامات کی کہ جہاں مرد و عورت کے حقوق ایک دوسرے سے مختلف ہیں، صحیح طور پر نشاندہی اور ان کی وضاحت کر سکیں تاکہ نتیجے میں ہر کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ سب احکامات مرد و عورت کی اپنی اپنی خاص بشری طبیعت و فطرت کی بنیاد اور معاشرے کی مصلحت کے عین مطابق ہیں۔ البتہ اس میدان میں بہت اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں لیکن موجودہ زمانے کے تقاضوں اور فہم و ادراک کے مطابق بھی کام ہونا

چاہیے حالانکہ ماضی میں بھی اچھے اقدامات کیے گئے تھے لہذا اگر کوئی اُن کا مطالعہ کرے اور ان پر توجہ دے تو اسی حقیقت اور تصدیق تک پہنچے گا۔

۳۔ انحرافی بحث و گفتگو سے اجتناب

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انحرافی بحث و مباحثے اور گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض افراد اس فکر و خیال سے کہ وہ خواتین کے دفاع کیلئے گفتگو کر رہے ہیں، انحرافی بحثوں کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں اور دیت (ومیراث) وغیرہ کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ سب حقوق نسواں کے دفاع کے سلسلے میں انحرافی بحثیں ہیں (اور ان کا حقوق نسواں کے دفاع سے کوئی خاطر خواہ تعلق نہیں ہے اور یہ بحثیں مقصد سے قریب کرنے کے بجائے دور اور ذہن کو الجھا دیتی ہیں)۔ مرد اور عورت کے بارے میں اسلام کی نظر بہت واضح اور روشن ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ گھرانے اور خاندان کے بارے میں بھی اسلام کی نظر بہت واضح ہے۔ اگر کوئی اس طرح (دیت، میراث وغیرہ کے) ان مسائل کو (حقوق نسواں کے دفاع کے ذیل میں) بیان کرے تو وہ اذہان کو مقصد سے دور کرنے اور انہیں حقیقت سے منحرف کرنے کے سوا کوئی اور کام انجام نہیں دے گا اور نہ ہی یہ کام صحیح اور منطقی ہے۔ انحرافی بحث و گفتگو کو کسی بھی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی بحث و گفتگو حقوق زن کے دفاع کے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کیلئے صحیح طریقہ کار کے منافی ہے۔

۴۔ قانونی دفاع

ایک اور نکتے کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے اور وہ تمام شعبہ ہائے حیات خصوصاً خاندان و گھرانے میں عورت کا اخلاقی اور قانونی دفاع ہے۔ قانونی دفاع کو موجودہ رائج قوانین کی اصلاح اور انہیں مزید لازمی و ضروری قوانین کو وضع کرنے کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے اخلاقی دفاع کے اس مسئلے کو اچھی طرح بیان کرنے کے ذریعے سے انجام دیا جائے۔ ساتھ ہی عورت کے اخلاقی دفاع کے سلسلے میں ان افراد کی فکر سے سنجیدگی اور قدرت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جو ان تمام امور کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہیں اور عورت کو گھر کی ملازمہ سمجھتے ہیں، اسے مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور عورت کے وجود کو خودسازی اور معنوی امور سے بے بہرہ خیال کرتے ہیں اور اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان افراد کے افکار سے مقابلہ مکمل طور پر عقلی و منطقی ہونا چاہیے۔

۵۔ خواتین کی عفت کی رعایت

اس کے بعد کا مسئلہ، خواتین کی عفت و حیا کو اہمیت دینے کا مسئلہ ہے۔ خواتین کے دفاع میں انجام دیے جانے والے ہر اقدام اور تحریک میں خواتین کی عفت و حیا کو اصلی رکن کی حیثیت دی جائے۔ جیسا کہ میننے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف اس نکتے کو اہمیت نہ دینے اور خواتین کی عفت و حیا سے بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے مغرب میں بے حیائی اور ہر قید و شرط سے آزاد زندگی گزارنے اور عزت و ناموس کو پارہ کرنے کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ آپ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں کہ معاشرے میں صنف نازک کی شخصیت کا اہم ترین عنصر ”عفت و حیا“ بے اعتنائی کا نشانہ بنے۔ عورت کی عفت دراصل اُس کی شخصیت کے ارتقا اور دوسروں حتیٰ شہوت پرست اور آوارہ مردوں کی نگاہوں میں اُس کی عزت و تکریم کا وسیلہ ہے۔ ایک عورت کی شخصیت، عظمت اور اُس کا احترام اس کی عفت و پاکدامنی سے وابستہ ہے۔ حجاب، محرم و نامحرم، نگاہ ڈالنے اور نہ ڈالنے کہ یہ تمام مسائل (مباح، حرام اور مکروہ کے قالب میں) اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسانی معاشرے میں عفت و پاکدامنی کا اہم ترین انسانی عنصر سالم و محفوظ رہے۔ اسلام نے خواتین کی عفت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے البتہ مردوں کی پاکیزگی اور عفت بھی اہم اور بنیادی امور سے تعلق رکھتی ہے۔ عفت اور پاکدامنی صرف صنف نازک سے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں کو بھی عفت و پاکدامنی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ مرد معاشرے میں اپنے مضبوط جسم اور جسمانی طاقت کی وجہ سے عورت کو اپنے ظلم کو نشانہ بناتا ہے اور عورت کے میل و رغبت کے برخلاف عمل کرتا ہے اسی لیے عورت کی عفت و پاکدامنی کی حفاظت کیلئے زیادہ تاکید اور احتیاط برتی گئی ہے۔

امریکی اعداد و شمار

آج آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ مغربی دنیا خصوصاً امریکا میں خواتین کی مشکلات میں سے

ایک مشکل یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی طاقت و زور کے بل بوتے عورت کی عفت کی دھجیاں اڑاتے ہیں ، اُن کی ابرو ریزی کرتے ہیں اور اُن کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ خود امریکی حکومت کی طرف سے دیئے گئے اعداد و شمار میں ، میں نے خود دیکھا ہے کہ جن میں سے ایک امریکی عدالت اور دوسرا کسی اور محکمے سے شائع ہوئے تھے۔ اُن کے اعداد و شمار واقعاً بہت وحشت ناک ہیں، امریکہ میں ہر چھٹے سیکنڈ ایک عزت و ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے ! توجہ کیجئے کہ عفت کا مسئلہ کتنا سنگین اور اہم مسئلہ ہے کہ ہر چھٹے لمحے ایک ظلم و ستم کی نئی داستان رقم ہوتی ہے! عورت کی طبیعت و مزاج کے برخلاف، ظالم، آوارہ، ہر قید و شرط سے آزاد زندگی گزارنے کا خواہاں ہے عفت مرد، عورت کی شخصیت و عفت کو تارتار کرتا ہے اور اُسے اپنے ظلم و تعدی کا نشانہ بناتا ہے۔ اسلام ان تمام مسائل و مشکلات کو مدنظر رکھتا ہے۔ اس حجاب کے مسئلے کو ہی لیے کہ جس پر اسلام نے اتنی توجہ اور تاکید کی ہے، اسی وجہ سے ہے۔ پس عفت و پاکدامنی کی حفاظت اور حجاب و عفت کو اہمیت دینا بہت اہم ترین مسائل ہیں۔

۶۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا

ایک اور مسئلہ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا ہے میں نے بار بار اس مسئلے پر بہت تاکید کی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم و تربیت ایک بہت عام اور رائج مسئلہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو تعلیم نسوان کے خلاف ہیں اور اپنی لڑکیوں کو تحصیل علم سے منع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تعلیمی ماحول و فضا غیر محفوظ اور خراب تھی لیکن آج الحمد للہ اسلامی حکومت کا دور دورہ ہے، آج کا معاشرہ ویسا نہیں ہے لہذا ان گھرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو تحصیل علم کی اجازت دیں تاکہ وہ درس حاصل کریں، مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں، دینی اور انسانی معارف اور لازمی تعلیمات سے آشنا ہوں ، ان کی فکری صلاحیتیں پروان چڑھیں اور اُن کے ذہن قدرت حاصل کریں۔ یہ کام بہت لازمی ہے اور اسے ہر صورت میں انجام پانا چاہیے۔

۷۔ حقوقِ نسوان سے تجاوز کرنے والوں سے قانونی کارروائی

حقوقِ نسوان کے دفاع کا آخری نکتہ یہ ہے کہ معاشرہ قانونی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے خواتین پر تجاوز اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھنے والے (مردوں اور عورتوں) کی سخت گرفت کرے، اُن کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور قانون بھی اس سلسلے میں سخت قسم کی سزاؤں کو معین کرے۔

ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مغربی ممالک اپنے ان تمام بلند و بانگ نعروں کے باوجود اپنے معاشرے کی عورت کو ابھی تک محفوظ نہیں بنا سکے ہیں۔ یعنی ابھی تک بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے شوہروں سے زدوکوب کا نشانہ بنتی ہیں اور بہت سی لڑکیاں اپنے باپ کے ہاتھوں زخمی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں اعداد و شمار کمزور اور وحشت ناک ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ایک اور چیز موجود ہے اور وہ ہے ”قتلِ نفس“، وہ لوگ بہت آسانی سے قتل کرتے اور خون بہاتے ہیں۔ قتل کرنے کی وہ قباحت و برائی جو اسلامی ماحول و معاشرے میں موجود ہے، اُن کے ماحول و معاشرے میں کہ جہاں انہیں معرفتِ الہی کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، موجود نہیں ہے۔ خواتین کا قتل و غارت اُن بہت ہی قبیح اور نفرت انگیز برائیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو آج مغربی ممالک بالخصوص بعض ممالک مثلاً امریکا میں رائج ہے۔ خوشبختی سے یہ تمام چیزیں ہمارے ملک میں اس شدت اور آب و تاب سے موجود نہیں ہیں اور استثنائی مواقع کے سوا یہ کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں۔ بہر حال خواتین کی نسبت ہر ظلم و ستم اور جسمانی تعرض و تجاوز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ اسلامی معاشرہ اُس مطلوبہ درجے تک پہنچ سکے کہ جسے اسلام چاہتا ہے۔

اگر کوئی ملک اپنے معاشرے کی خواتین کو اسلامی تعلیمات کے سائے میں اسلامی معارف سے آشنا کرے تو مجھے اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے کہ ملکی ترقی و پیشرفت ، ڈگنی اور چند برابر ہو جائے گی۔ اگر خواتین اپنے وظائف و ذمے داریوں کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے زندگی کے کسی شعبے اور میدان میں قدم رکھیں تو خود اُس شعبے کی ترقی چند برابر ہو جائے گی۔ مختلف شعبہ ہائے حیات میں خواتین کی موجودگی اور اُن کے حاضر ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت میدان میں قدم رکھتی ہے تو اس کا شوہر اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ اسی میدان میں قدم رکھتے ہیں لیکن مرد کا کسی میدان عمل میں حاضر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا بخلاف عورت کے۔ عورت جو گھر کی جان اور گھر کی روح رواں ہے، جب بھی ایک میدان میں قدم رکھتی ہے تو درحقیقت اپنے پورے گھر کو اُس میدان میں لے آتی ہے۔ اسی لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں خواتین کا فعال وجود بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ۱

ایک اہم نکتہ!

وہ اہم نکتہ کہ جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خواتین کی مشکلات نے دراصل تاریخی اور قدیمی ظلم و ستم سے جنم لیا ہے۔ اگر آج ایک مرد اپنی بیوی سے بہت نزاکت، اخلاق اور توجہ سے پیش آئے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی اور گھر کی فضا میں اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت میں اُس پر ظلم نہ کرے لیکن اگر مرد اس سلسلے میں اخلاق، توجہ، سنجیدگی اور تقویٰ کی رعایت نہ کرے تو اس کا لازمی نتیجہ بیوی پر ظلم کی صورت میں نکلے گا۔ مثلاً ایک عالم و فاضل اور تعلیم یافتہ عورت کا شوہر اُن پڑھ ہو تو یہ اُن پڑھ شوہر اپنی عالمہ و فاضلہ بیوی پر ظلم کرے گا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں بیوی نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور اُس کا شوہر اُن پڑھ ہے (یا کم تعلیم یافتہ ہے) اور وہ گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ میری نظر میں اس مسئلے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے و الا بہت سے اجتماعی مسائل خود بخود حل ہوجاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ان مسائل کے حل کیلئے اقدامات نہیں کرنے چاہئیں اور انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ خود بخود حل ہوجائیں، ہرگز نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ مسائل پر توجہ دینے اور انہیں حل کرنے کی رفتار اور طریقہ کار کو روز بروز بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل قضاوت اور قاضی بننے کے سلسلے میں حوزہ ہائے علمیہ میں سنجیدہ بحث جاری ہے اور مختلف حضرات اس میں شریک ہیں۔

۱ اکتوبر ۱۹۹۷ میں تہران کے آزادی جیم خانے میں خواتین کی ایک بڑی کانفرنس سے خطاب

آپ کی رپورٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ملکی قانون میں بہت سے مقامات کی نشاندہی کی ہے، میں ان مقامات کو ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط؟ آپ نے رپورٹ میں بہت سے اعتراضات، عیوب اور نقائص کو بیان کیا ہے کہ جن میں سے بعض بجا اور درست ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے پیش کیے گئے یہ اعتراضات اس طرح نہیں ہیں کہ جو ہر صورت میں ہماری موجودہ اور رائج فقہ سے تعارض رکھتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں نے جن اعتراضات و نکات کا مطالعہ کیا ہے اور اگر انہیں حقوقی نظر سے اچھی طرح منظم کیا جائے تو ہماری ملکی قانون میں بغیر اس کے کہ وہ ہماری رائج فقہ سے ٹکرانے، تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ میری نظر میں یہ کام بہت مثبت اور مفید ہے اور اس سلسلے میں آپ خواتین کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دوسرے بقیہ امور سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

خواتین کی نسبت مغربی نگاہ کے جال میں پھنسنے سے پرہیز

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے خواتین کے حقوق کی دفاع کی بات تو کرتے ہیں لیکن عملاً ایسی فاش غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں خواتین کے حق میں نہیں ہیں! یعنی یہ افراد (مسلمان عورت کیلئے آئیڈیل تراشنے کیلئے) مغربی عورت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اور کیا کرتی ہے تاکہ اُسے آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اُن کا یہ طرز فکر، اسلامی انداز فکر سے بہت مختلف ہے جبکہ اسلامی فکر و نگاہ ان کی فکر و نگاہ سے بہت زیادہ عمیق، ترقی یافتہ، ناقابل مقایسہ اور خواتین کیلئے ہر حال میں سودمند ہے۔ ہمیں مغربی عورت سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بعض افراد ہیں جو حقوق نسواں کے دفاع کے بارے میں دفاعی حالت اختیار کرتے ہیں۔ جب اہل مغرب و یورپ یہ کہتے ہیں کہ (یہاں مسلمان معاشروں میں) عورت پر ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ ثابت کرنے کیلئے کہ یہاں ہمارے ملک میں عورت پر ظلم نہیں ہوتا، اپنے دفاع میں بہت سے باتیں بیان کرنا اور مختلف قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے ایسے امور کا تظاہر کرتے ہیں کہ جن کا خواتین پر ظلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ خواتین کی روزش سے متعلق بعض خلاف ورزیاں کہ جنہیں میں نے خود سنا ہے، بعض مقامات پر ظاہر ہوتی ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ خلاف ورزیاں اور غلطیاں ہیں لیکن اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے ذریعے خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے۔

وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اجتماعی میدان میں عورت ظلم کا شکار ہے خواتین پر سب سے زیادہ ظلم اُس کے اپنے گھر میں خود اُس کے شوہر کے ہاتھوں انجام پاتا ہے اور شاید نوے فیصد سے زیادہ یہ ظلم اُس کے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے لہذا اس اجتماعی مسئلے پر توجہ دینی اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہن اور باپ وغیرہ کی طرف سے ہونے والا ظلم اتنا نہیں ہے اور یہ صورتحال بہت نادر ہے۔ ہاں کچھ واقعات ہیں کہ ممکن ہے کہ بھائی، بھائی پر ظلم کرے یا اسی

طرح بھائی بہن آپ میں اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم کریں اور مناسب و غیر مناسب اور ظالمانہ یا عادلانہ رویہ اختیار کریں لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے کہ جس کی اچھی صورت بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے ، وہ گھر کے اندر آپس کے تعلقات اور رویہ ہے۔ حتیٰ کبھی کبھار یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ان تعلقات اور رویے کی قابل ملاحظہ صورت حال اور اچھی حالت بھی بری ، نامناسب اور ظالمانہ ہوتی ہے۔

تھوڑا سا انصاف کیجئے !

آپ پیار و محبت سے اپنی نور چشم بیٹی کو پروان چڑھاتے ہیں اور پندرہ یا سولہ سال بعد اُسے اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ شوہر کے گھر میں آپ کی بیٹی سے اُن کی بیٹی جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ (ساس، بہو اور نندو بھابی کا مسئلہ) ہمارے معاشرے کا ایک عام سا مسئلہ ہے ۱۔ یعنی آپ دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کیلئے بیوی (اور اپنی بہو بنا کر لاتی ہیں تو کیا آپ اپنی بہو سے اپنی بیٹی جیسا برتاؤ کرتی ہیں؟) اور وہ گھرانہ جو اپنے بیٹے کیلئے آپ کی بیٹی کو دلہن بنا کر بہو کے عنوان سے اپنے گھر لے جاتا ہے ، کیا وہ بھی آپ کی بیٹی سے یہی برتاؤ کرتا ہے جو آپ اپنی بہو سے کرتی ہیں؟ (ذرا انصاف کیجئے!) ان تمام معاشرتی مسائل کا علاج کرنا چاہیے اور یہ مرد و عورت کے آپس میں تعلقات سے مربوط ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات و روابط مکمل طور پر عادلانہ ، اسلامی ، صحیح اور محبت آمیز ہوں تو ظلم و ناانصافی کرنے والے ایسے گھرانوں کے عمل اور برتاؤ کی کوئی تاثیر باقی نہیں رہے گی یعنی لڑکی کیلئے سسرال والوں کی طرف سے سختی اور مختلف باتوں کے تھونپے جانے کی جرأت اور موقع باقی نہیں رہے گا۔ ان سب کی بازگشت میاں بیوی کے درمیانی تعلقات کی طرف ہوتی ہے جو عورت پر ظلم کی راہیں کھولتے ہیں۔ یہ وہ نکتہ ہے کہ جسے میں آپ خواتین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ۱

۱ ساس بہو اور بھابی نند کے درمیان گھریلو اختلافات ہمارے یہاں ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ فطری سی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد اور بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں اور بڑے پیار و محبت سے ان کی تربیت کر کے رشتہ ازدواج میں انہیں منسلک کرتے ہیں۔ اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ اُن کی نور چشمی اپنے سسرال میں بھی ویسا ہی سکھ پائے جیسا اپنے میکے میں پاتی تھی۔ لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جب وہ دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں بہو بنا کر لاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بہو بھی کسی گھر کا نور اور کسی ماں کے دل کا چین ہے اور خود اُن کی اپنی بیٹی کسی کے گھر میں بیباکی گئی ہے۔ چنانچہ یہ افراد سب سے بعض غیروں والا سلوک کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور دھڑکتے دل اور احساسات کی مالک ہے۔

طعنے ، جھڑکیاں اور چہنچہ والی باتیں روزانہ بہو کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں اور بالفرض اگر بہو سیدھی سادی اور شریف ہو تو پلٹ کر ساس اور نندوں کو کچھ نہیں کہے گی ، ساس کا پھولا منہ ، بگڑا چہرہ ، نندوں کی باتیں ، طعنے اور گھور گھور کر دیکھنے والی آنکھیں سب نشتر کے تیروں کی طرح بہو کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی بھی کسی کی بہو ہے!

حدیث میں ہے کہ ”اپنے اور لوگوں کے درمیان انسان خود انصاف کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کیلئے، جسے اپنے لیے ناپسند قرار دے اُسے دوسروں کیلئے بھی ناپسندیدہ قرار دے۔“

نہ جانے بہو پر ظلم کرنے والے یہ حدیث کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ کیا ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کی اپنی بیٹی دوسرے کے گھر میں بہو کے عنوان سے سدا سکھی رہے؟ تو یہ اپنے گھر کی بہو کو بھی سکھی رکھیں! جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی سے اُس کے سسرال میں پیار و محبت کا سلوک کیا جائے تو انہیں چاہیے کہ پرانے کی بیٹی سے بھی پیار و محبت کا سلوک کریں۔

لہذا ہم سب کو ذرا سے انصاف کے ذریعے اپنے ماحول اور گھر کی فضا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ساس بہو اور بھابی نند کے جھگڑے میں سب سے اہم کردار شوہر کا ہے۔ دن بھر کی جنگ کی رپورٹ بیوی اپنے شوہر کو دن کے اختتام پر پیش کرتی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی صحیح حمایت کرے اور اُس کی ڈھارس باندھے کیونکہ یہ اُس کی بیوی ہے جو اپنا سب کچھ ، گھریباں ، ماں باپ ، ماضی اور خواب و خیالات سب کچھ چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہے اور اس کی محبت و چاہت کی طلبگار ہے۔ اب یہاں اگر شوہر بیوی کی جائز حمایت نہ کرے تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لہذا شوہر اپنے صحیح طریقے اور اسلامی روش و احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو سلجھانے۔ والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی محفوظ رہے اور بیوی بھی خوش رہے۔ لہذا اس ضمن میں شوہر کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ اب جہاں تک بہو کے کردار کی بات ہے تو ان شاء اللہ ان تمام مسائل کے بارے میں مینیاک الگ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ (مترجم)

چوتھی فصل

حقوق نسوان کے دفاع کیلئے تین بنیادی نکات اس مسئلے میں میری نظر مینجو چیز اہمیت کے قابل ہے وہ دو تین نکات ہیں اور میری آپ سے توقع اور خواہش یہ ہے کہ ان نکات پر پوری توجہ دیں۔

۱۔ عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنے دیے

پہلی بات

اولاً حقوق نسوان کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے ہی مخصوص ہو یا ہم یہ خیال کریں کہ اس مسئلے میں صرف ہم ہی ہیں جو اپنے معاشرے سے لڑ رہے ہیں، نہیں! یہ ایک تاریخی جنگ ہے یعنی پوری تاریخ میں واضح دلائل کی روشنی میں عورت ہمیشہ مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے۔ اس کا ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ عورت جسمانی لحاظ سے مرد سے کمزور ہے اور یہ بہت واضح و روشن امر ہے۔ مرد کی آواز عورت سے زیادہ بھاری، قد و قامت کے لحاظ سے وہ بلند و بڑا اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے بڑے جٹے و ہیکل کا مالک ہے۔ مردانہ تخلیق کی خصوصیات میں تسلط، برتری اور فعال ہونا شامل ہے جبکہ عورت کی تخلیقی خصوصیات میں اس کی نرمی، لطافت، ملائم ہونا اور جذب کرنا شامل ہے۔

دوسری بات

اگر آپ عورت کے بارے میں اسلامی تعبیرات کو ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کے بارے میں حقیقی اور واقعی تعبیرات موجود ہیں۔ ”الْمَرْأَةُ رِيحَانَةٌ؟ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ“ ۱ عورت پھول ہے، ریحانہ یعنی پھول، انسان پھول کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ پھول کے نرم وجود کے مقابلے میں انسان کیا طرز عمل اپناتا ہے؟ اگر پھول سے گشتی لڑی جائے تو پھول کی پتیاں الگ الگ ہو کر بکھر جائیں گے اور پھول کا پورا وجود ہی ختم اور نابود ہو جائے گا۔ اگر پھول کو پھول سمجھیں اور اُس سے پھول جیسا برتاؤ کریں تو یہ زینت کا باعث بنے گا اور خود پھول کا وجود ایک اہمیت و خاصیت کو پائے گا۔

۱ نہج البلاغہ نامہ ۳۱

”وَلَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ“ وہ قہرمان نہیں ہے، قہرمان کا مطلب پہلوان نہیں، یہ ایک عربی تعبیر ہے جو فارسی زبان سے لی گئی ہے، قہرمان یعنی خود کسی کام کو مستقیماً انجام دینے والا، انچارج یا ٹھیکے دار جو اپنی نگرانی میں مختلف کام انجام دیتا ہے، یعنی عورت کو اپنے گھر میں کاموں کو انجام دینے والا انچارج نہ سمجھیں یہ خیال نہ کریں کہ آپ گھر کے مالک اور مطلق العنان سربراہ ہیں اور گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت وغیرہ جیسے اہم بڑے چھوٹے کام ایک انچارج کے پاس ہیں اور گھر کی انچارج آپ کی بیوی ہے لہذا اس سے ایسا سلوک روا رکھا جائے جو ایک سربراہ اپنے ماتحت افراد سے رکھتا ہے! یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔

تیسری بات

آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرد کا یہ برتاؤ اور سلوک، ایک حقیقی برتاؤ ہے اور براہ راست عورت کی طبیعت و مزاج سے مخاطب ہے۔ عورت تو اپنی طبیعت و مزاج کو فراموش نہیں کر سکتی اور مصلحت بھی نہیں ہے کہ وہ اسے فراموش کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کامل خاندانی نظام زندگی میں عورت کی یہ طبیعت و مزاج بہت موثر ہے اور یہ لازمی بھی ہے۔ وگرنہ اگر اس جنس (عورت) کو خواہ حقیقی و واقعی طور پر یا خصوصیات و عادات کے لحاظ سے ایک دوسری جنس میں تبدیل کر دیں ۱ تو گویا ہم نے اُس کے کمال کو کم کر دیا ہے، کیا حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ہمیں چاہیے کہ عورت کو عورت اور مرد کو مرد ہی رہنے دیں تاکہ نظام ہستی کا کاروبار اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچے۔ اگر ہم نے مرد کو اس کی تمام خصوصیات، عادات و صفات، مردانہ مزاج اور اُس کے تمام وظائف کے

ساتھ عورت میں تبدیل کیا یا عورت کو مرد میں تبدیل کیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔
 ۱ عورت، عورت ہی رہ کر اپنی نرم و لطیف طبیعت و مزاج کے ساتھ ہی خاندانی نظام زندگی میں موثر کردار ادا کرسکتی ہے۔ عورت کا کمال اُس کی نسوانہ فطرت، زنانہ طبیعت و مزاج اور خصوصیات سے ہی وابستہ ہے۔ چنانچہ اگر عورت کو جنس کے لحاظ سے یا عادات و صفات، طبیعت و مزاج اور وظائف کے لحاظ سے تبدیل کیا جائے تو یہ سراسر غلطی ہے۔ یہ نظام ہستی میں عورت کے کمال کو کم کرنے کے مترادف اور اُسے اُس کے حقیقی مقام سے ہٹانے کے برابر ہے۔ (مترجم)

”فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ“ ۱ قرآن میں ذکر کی گئی تخلیق خدا کی تبدیلی یہی ہے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے عالم ہستی کے کامل ترین نظام کو تباہ و برباد کردیا کہ جس میں ایک جنس ان خصوصیات اور عادات و صفات کے ساتھ اور دوسری جنس ان خُلقیات اور خاص طبیعت و مزاج کے ساتھ ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل وجود بنا سکیں۔

چوتھی بات

اس تمام گفتگو سے میری غرض یہ تھی کہ تاریخ میں جہالت کی وجہ سے عالم خلقت کے ان دونوں وجود، مرد و عورت کی اپنی اپنی خاص صفات، عادات اور طبیعت کو خود اُس کے خاص تناظر میں دیکھا نہیں گیا ہے لہذا مرد نے اپنے طاقت و قدرت کے بل بوتے ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے اور عورت اُن کے تاریخی ظلم کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ کیا آپ نے توجہ اور غور کیا؟! یہ مسئلہ دراصل ایک تاریخی ظلم و ستم سے مقابلہ ہے لہذا اگر ہم نے اس مقابلے میں عجلت، سطحی نگاہ، تدبیر و تعمق کے بغیر اور اس چیز کو مدنظر رکھے بغیر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کام کیا تو ہمارا یہ اقدام کامیابی کو کئی سالوں عقب دھکیل دے گا، بنا برابری، بہت پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ مگر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔

۲۔ اسلامی ثقافت، شرعی احکامات اور رضائے الہی پر توجہ

مغربی ثقافت کا ظاہری مثبت نکتہ

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ مغربی ثقافت سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ دیگر مختلف ثقافتوں سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مغربی ثقافت والی نصف دنیا میں عورت پر نسبتاً زیادہ ظلم ہوا ہے۔ مختلف حوالوں، ذرائع ابلاغ اور موثق ذرائع سے ملنے والی خبروں، حادثات و واقعات، اعداد و شمار، رپورٹوں اور تجزیہ و تحلیل کے ذریعے میں یہ دعویٰ کرسکتا ہوں۔

توجہ فرمائیے کہ مغرب میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان اُن کے اجتماعی معاملات، کردار اور برتاؤ میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک جلسے یا محفل میں ایک مرد داخل ہوتا ہے، سلام علیک اور احوال پرسی کرتے ہوئے اس محفل کا ایک جز بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی آتی ہے اور اس محفل کا حصہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اُس معاشرے میں اس جہت سے مرد و عورت کے کردار و عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق اور طبقاتی یا انسانی جنس کے لحاظ سے کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی! مغربی معاشرے کے اس اجتماعی سلوک اور عمل نے دنیا والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔

۱ سورنہ نسائ / ۱۱۹

انسان جب اس ظاہری حالت کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک وضع مطلوب ہے اور سب اس وضع و حالت سے خوش ہیں۔ حتیٰ وہ افراد جو اپنے منطقی دلائل کی وجہ سے اس اجتماعی رفتار و سلوک کے مخالف ہیں جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے! وہ ایک معاشرتی نظام میں مرد و عورت کو دو اجنبیوں کی طرح نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان پر بہن بھائی کی حیثیت سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ دونوں جب ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہیں! مغرب میں مرد و عورت اس طرح آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

اس ظاہری مثبت نکتے کے پس پردہ منفی نکات

یہ ایک مثبت نکتہ ہے لیکن بہت سطحی اور ظاہری، لیکن اسی ظاہری نکتے کے پس پردہ بہت سے منفی نکات پوشیدہ ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کی چار دیواری میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی منبری گفتگو نہیں ہے جو چند سامعین کو خوش کرنے یا کوئی نعرہ نہیں ہے جو چند افراد کو جمع کرنے کیلئے لگایا جائے بلکہ یہ سب حقیقت اور سچی خبریں ہیں اور ان کے دیئے ہوئے اعداد و شمار سے اخذ شدہ ہیں۔ گھروں میں خواتین پر ظلم و ستم ہوتا ہے حتیٰ اس خاتون پر بھی جو اپنے ملازم شوہر کی مانند ملازمت کرتی ہے اور دن میں دو گھنٹے کی چھٹی میں جب گھر آتی ہے تو اس پر ظلم ۱ ہوتا ہے!

کیسے ظلم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دو انسان ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ اگر یہ صورتحال ایک تصوراتی اور آئیڈیل صورتحال ہوتی یعنی یہ دو انسان ہیں، دونوں ملازمت کرتے ہیں، رات کو تھکے ہارے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور دوبارہ اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ دونوں مرد نہیں ہیں، ان میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت مرد و عورت میں سے ہر ایک کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں مرد پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مرد، عورت کی بہ نسبت مضبوط و قوی ہوتا ہے لہذا ہم اس کے ظلم کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر یقینی صورت میں ظلم ہوتا ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ وہ مرد جو اس عورت کو شوہر ہے، اور بہت خواتین سے جنسی اور عاشقانہ تعلقات رکھتا ہے۔ اس کے یہ ناجائز تعلقات اور روابط مکمل طور پر سچے اور وفادار میاں بیویوں کی مانند محبت سے لبریز ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اہل و عیال سے بھی ایسے تعلقات نہیں رکھتا ہے!

۱ یہاں لفظ ظلم سے کوئی مشتبہ امر پیدا نہ ہو کیونکہ ظلم صرف کسی کو زدو کوب یا لگدمالی کا نشانہ بنانا نہیں ہے۔ ظلم کی وضاحت صفحہ 84 پر ہو چکی ہے، ظلم ایک وسیع مفہوم ہے اور اسکے کئی مصداق ہیں۔ لہذا ظلم کا وہی معنی مراد لیا جائے جو متن میں موجود سیاق و سباق اور قرینے سے سمجھا جائے۔ (مترجم)

یہ ایک عورت پر بہت کاری ضرب اور بہت بڑا حملہ ہے۔ ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے محبت آمیز، صاف شفاف اور نزدیکی ترین تعلقات رکھتی ہو اور یہ دونوں پوری دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ لہذا ایسے گھرانے میں سب سے پہلی چیز جو عورت سے چھینی جاتی ہے، یہی ہے! اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شوہر ہو کہ جو کبھی اپنی بیوی سے رحم کا سلوک بھی کرے اور کبھی ظلم بھی کرے لیکن پھر بھی اُس کے ساتھ گہرا دوستانہ و عاشقانہ اور بقول معروف ”جانم، سوٹھی یا بنی“ کا رابطہ رکھتا ہو۔ تو کیا یہ رابطہ اور تعلقات بہتر ہیں یا نہیں؟ یعنی دو دوستوں کی مانند یہ دونوں گھر میں داخل ہوں، ایک دوسرے کو سلام کریں، احوال پرسری کریں، میز پر بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پئیں اور اسکے بعد یہ اپنی راہ لے اور وہ اپنی راہ! مسلم ہے کہ یہ بھی پہلی صورتحال سے بہتر نہیں ہے۔ آپ ایک عورت کی حیثیت سے اس فیصلے کیلئے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیجئے کہ کیا آپ اس دوسری صورت حال کو پہلی کی بہ نسبت زیادہ پسند کرتی ہیں؟ یہ شوہر قابلِ تحسین ہے یا پہلا شوہر؟ میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی عورت موجود ہو کہ جو اس دوسرے شوہر کو پہلے والے شوہر پر ترجیح دے یعنی وہ بیوی (پہلے والے سخت گیر) شوہر کی سخت مزاحی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخی کو اس (دوسرے شوہر) سے اس کی حقیقی محبت و چاہت اور اس بات کے مقابلے میں کہ اُس کا شوہر اس کے سوائے کسی اور عورت کا عاشق و دلدادہ اور کسی اور سے جنسی تعلقات رکھنے والا نہیں ہے، قبول کر لیتی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی! یہ ہے وہ پہلا ستم جو مغربی عورت پر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں تمام گھرانے ایسے ہیں لیکن معمولاً صورتحال یہی ہے اور دوسری جانب عورت پر ہونے والا جسمانی ظلم اور اذیت و آزار دوسری طرف!

میں نے دو سال قبل (۱۹۹۵) ایک امریکی جریدے میں گھروں میں ہونے والے مردوں کے ظلم و ستم کے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا تھا، وہ اعداد و شمار واقعاً بہت وحشتناک تھے۔ البتہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی بعض جہات سے مثلاً گھلے ٹلے ہونے میں قدیم یورپی ممالک سے بہتر ہیں اور انگلستان، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں زیادہ کھلے ہیں۔ یہی کھلی حالت جو مغربی ثقافت میں مشاہدہ کی جاتی ہے، امریکا میں یورپی ممالک سے زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکا میں ایک گھریلو عورت پر ظلم و ستم، زدوکوب اور اہانت تحقیر دوسرے مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ ان اعداد و شمار میں میں نے خود دیکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اُن لوگوں کے اعداد و شمار ہیں جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آکر شکایت درج کرائی ہے جبکہ شکایت درج نہ کرانے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔

ہم کیا کریں؟

پس آپ دیکھئے کہ یہ وہ پہلا ظلم ہے جو وہاں کی خواتین پر ہوتا ہے اور کوئی اُس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اب ایسی

حالت میں ہم انہیں اور اپنے شعاروں اور نعروں میں ایسی چیزوں کو بیان کریں کہ جو مغربی ثقافت خواتین کے حقوق کے دفاع یا خود خواتین سے برتاؤ کے عنوان سے بیان کرتی ہے اور انہیں شعار اور نعروں کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے! کیا یہ مصلحت ہے؟ ان تمام چیزوں کو آئیڈیل بنا کر انہیں مسلمان معاشرے کے سامنے پیش کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کہیں سے بھی سودمند نہیں ہے۔

اگر آپ اسلام کی نظر کو حقیقی اور گہری صورت میں سمجھیں نہ کہ سطحی نظر کہ جو اکثر اوقات غیر حقیقی مطالب اور خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور عورت کے بارے میں اسلامی نظر کا لب لباب سمجھا اور نکالا جائے تو یہ امر سزاوار ہے کہ جس کیلئے حقیقتاً جدوجہد کی جائے اور شعار بلند کیے جائیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ جو شعار اور نعرے لگاتے ہیں ان میں ان چیزوں کے نہ لے کر انہیں (جو مغربی ثقافت کا حصہ ہیں) اور مغربی ثقافت کی طرف جھکاؤ کو حقوق نسواں کیلئے اپنے مقابلے کا ہدف قرار نہ دیں۔ اس لیے کہ اولاً مغربی ثقافت ایک ناکام ثقافت ہے اور لوگ بھی یہ باتیں سننے کیلئے تیار نہیں ہیں اور بہت سے افراد ان باتوں کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے صاحب نظر اور دیگر افراد ہیں کہ جو ممکن ہے کہ ان باتوں کو قبول نہ کرتے ہوں تو یہ افراد مقابل میں آکھڑے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ بھی حقوق نسواں کا دفاع کرنے کے خواہش مند ہیں۔

ثانیاً بجائے اس کے کہ سب باتوں میں ہاتھ دیں اور ماضی میں ضائع شدہ ایک حق کے اثبات کیلئے جدوجہد کریں، آپس میں مقابلہ آرائی شروع کر دیں گے! یوں یہ غلط سلسلہ چل نکلے گا اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ ثالثاً اس طرز عمل کو اپنانے میں مصلحت نہیں ہے اور نہ ہی خداوند عالم اس سے راضی ہے۔ انسان کو ایسا کام انجام دینا چاہیے کہ اُس کا خدا اُس سے راضی ہو۔

رضائے الہی کیلئے کام کیجئے

حقوق نسواں کے اس دفاع، اس حکومت اور اس فعالیت سے ہمارا ہدف رضائے الہی کا حصول ہے۔ اگر ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں اور دنیاوی طور پر اپنے کامیاب ترین نتائج میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہیے! انسان صرف اپنے خدا کو راضی و خوشنود کرے۔ ہم یہاں صرف چار دن کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور صرف کچھ دنوں کیلئے ہمارے بدن اور سانس کے درمیان رشتہ قائم ہے، اس کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچیں گے کہ جہاں از اول تا آخر صرف اور صرف رضائے الہی ہی انسان کے کام آتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کیلئے اقدام کرنا چاہیے۔ آپ اسے اپنا ہدف و مقصد بنائیے، اپنے کاموں اور جدوجہد میں قصد قربت کیجئے اور خدا کیلئے کام کیجئے تو خدا بھی آپ کی مدد کرے گا۔

بیماری کی تشخیص کیلئے حقیقت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے!

مجھے ایک خط ملا جو خاص طور پر میرے نام تھامیں نے اُسے ملک کی خواتین کی ایک فعال اور اچھی انجمن کو بھیجا تاکہ وہ اس خط میں موجود مسائل کے بارے میں تحقیق کریں۔ وہ خط بہت طولانی مگر شیریں اور خوبصورت تھا لیکن میری نگاہوں میں اس خط میں موجود معلومات صحیح نہیں تھیں۔ اس میں بہت زیادہ شکوہ و شکایات کی گئی تھیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اُسے خواتین سے نسبت دیا گیا تھا۔ صرف اس خیال سے کہ یہ سب باتیں اسلام سے مربوط ہیں لیکن درحقیقت ایسا نہیں تھا میری نظر میں بیماری کی تشخیص کیلئے انسان کو حقیقت بین ہونا چاہیے۔

اسلامی احکامات کی حکمت

توجہ فرمائیے کہ اسلام نے مرد و عورت کے درمیان حجاب کو قرار دیا ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ حجاب بھی کسی مصلحت و حکمت کے مطابق ہے کہ حجاب کی صحیح ترین شکل یہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جب مرد و عورت تنہا ایک کمرے میں ہوں کہ جہاں دروازہ بند ہو اور پردہ پڑا ہو تو وہاں ان دونوں کا ایک ساتھ موجود ہونا حرام ہے۔ اس حکم کے پیچھے ایک حکیمانہ اور عمیق نظر ہے اور وہ صحیح بھی ہے۔ معاشرے کے افراد، مرد یا عورت ہونے کی بنا پر جب اپنے باطن کی طرف رجوع کریں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ حکم صحیح ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ یہ حکم غلط ہے۔

اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت زینت و آرائش کر کے مردوں کے سامنے نہ آئے، یہ حکم بھی بالکل صحیح ہے۔ مغربی ثقافت بالکل اس کے برعکس ہے۔ مغربی ثقافت اپنے معاشرے کی عورت سے یہ کہتی ہے تم اچھی طرح میک اپ کرو، زینت و آرائش کرو! یہ ہے مغربی ثقافت، میک اپ کی انواع و اقسام کی چیزیں ایک خوبصورتی نہ رکھنے والی

عورت کو بھی مختلف قسم کے میک اپ کیلئے اس لئے دی جاتی ہیں کہ وہ جب مرد کے سامنے جائے تو مرد اسے خوبصورتی و زیبائی میں دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو! جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میک اپ کی مصنوعی خوبصورتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میل و رغبت چند لمحوں سے زیادہ قائم نہیں رہتا ہے۔ یعنی جب یہ مرد اس عورت کے پاس آئے گا تو وہ خود دیکھے گا کہ یہ خوبصورتی حقیقی نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر نگاہ ڈالے تو اس کی تعریف کرے! یہ چیز مغربی ثقافت میں ایک امر مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔

حکمت اور دوسرے کلام میں فرق

لیکن اسلامی ثقافت میں شوہر کے علاوہ زینت و آرائش ایک امر مذموم ہے لہذا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ”ذَا لَيْكِ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ“ ۱ (یہ وہ چیز ہے کہ جسے تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کے ساتھ وحی کیا ہے)۔ آپ قرآن میں ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے پیغمبروں سے خطاب میں بہت جگہ حکمت کو مکرر بیان کیا ہے۔ مثلاً حضرت لقمان کے بارے میں چند مطالب کو ذکر کرتا ہے۔ ”وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا“ ۱ (زمین پر اکڑ کر مت چلو)۔ یہ وہ بیانات ہیں کہ جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ”ذَالِكِ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ“ ۲۔ حکمت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے لب و لہجے پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ بہت سادی اور معمولی بات نظر آئے گی لیکن جب آپ اس میں غور و خاص کر رہیں گے تو اس کی گہرائی کو نہیں پاسکینگے کہ وہ کتنی عمیق ہے؟ یہ ہے حکمت کی خاصیت! توجہ فرمائیے۔

۱ سورہ اسراء / ۳۹

حکمت اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں، اہل عقل و منطق اور ان کے استدلال کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کلمات کے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں کہ جب انسان اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک اوقیانوس کی مانند پاتا ہے لیکن جب اُس کی گہرائی کو دیکھتا ہے تو گہرائی کو دو ملی میٹر پاتا ہے! ظاہر میں ایک اوقیانوس ہے لیکن باطن میں کچھ نہیں۔ لیکن قرآنی کلمات اور حکمتیں ایسی نہیں ہے۔ میرا حضرت امام خمینیؒ کے بارے میں بھی تجربہ ہے۔ لہذا میں نے سب سے پہلے لفظ ”حکیم“ کو اُن کیلئے استعمال کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حکیم جسے کہا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام خمینیؒ جب باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی سطحی اور معمولی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں انسان کی نظر میں کوئی جلوہ نہیں کرتی تھیں لیکن جب انسان اس میں غور و فکر کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کتنی گہری و عمیق ہیں!

عورت کا اجتماعی کردار

جو کچھ قرآن و احادیث پیغمبر ﷺ و اہلبیتؑ میں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ حکمت ہے کہ جس پر واقعاً توجہ کرنی چاہیے۔ ان تمام بیانات میں سے ایک مسئلہ یہی حجاب اور مرد و عورت کے درمیان حفاظتی وجود کا مسئلہ ہے۔ حجاب کے ذریعے سے ہونے والی یہ حفاظت سب جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص جگہ پر ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک خاتون حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا مقام؟ کیونکہ میں نے بطور مثال ایک مقام کو مجمل انداز سے بیان کیا ہے جو واضح نہیں ہے اور ایسی حالت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ سے کسی بھی حکومتی عہدے کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ بہر حال اگر وہ ایک ایسے عہدے کو حاصل کر لے کہ جہاں رجوع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ امر عورت کی فعالیت میں مانع بنے گا۔ اس مقام پر عورت ہزاروں مرد اور دیگر رجوع کنندگان کی حکیمانہ انداز سے پذیرائی کرے، ان کے مسائل کو سنے، جواب دے اور ان کے جائز حقوق کیلئے احکامات صادر کرے۔ اس میں نہ کوئی محدودیت ہے اور نہ کوئی چیز مانع ہے۔

۱ سورہ اسراء / ۳۷ ۲ سورہ اسراء / ۳۹

مختلف مسائل سے مقابلے اور میدان جنگ میں بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت زینب علیہا السلام کے سامنے ایک میدان تھا جہاں آپ نے کام کیا، حضرت زہر علیہا السلام نے بھی ایک میدان میں قدم رکھا، جناب حکیمہ خاتون یا حضرت امام صادق کی خواہر نے میدان عمل میں قدم رکھا۔ حضرت امام صادق نے کسی سے فرمایا کہ جاو اور یہ مسئلہ ان (میری بہن) سے پوچھو۔ کچھ ائمہ علیہم السلام کی خواہر اور زوجات یا بعض پیغمبروں کی بیویوں نے علمی و ثقافتی، سیاسی، انقلابی، اور فوجی میدانوں میں قدم رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ عورت کا عورت ہونا ان تمام میدانوں میں اس کی فعالیت کی راہ میں ہرگز ممانع نہیں ہوتا لیکن ان سب جگہ حجاب کا حکم ضرور موجود ہے۔ آپ اس کی پابندی کیجئے اور مقابلے کیلئے میدان عمل میں قدم رکھیے۔

۳۔ گھرانے میں شوہر و بیوی کے کردار پر زیادہ توجہ کی ضرورت خواتین کے حقوق کے دفاع کیلئے تیسرا بنیادی اور لازمی نکتہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میری نظر میں خواتین پر ظلم ستم کے جتنے مقامات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ظلم گھرانے میں ہوا ہے۔ اس مسئلے کو آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں، بیان کیجئے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ خواتین فلاں مقام و منصب کو حاصل کریں، یہ بعد کا مرحلہ ہے اور اتنا قابل اہمیت نہیں ہے۔ سب سے اہم مرحلہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے برتاو اور کردار کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ ایسے قوانین وضع کر سکیں کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو امن و سکون کا احساس کرے تو یہ ایک قابل تحسین امر ہے۔

بیوی کیلئے امن و سکون کا ماحول فراہم کیجئے انسان اپنی بیٹی کو بہت محنت، محبت، نرمی اور والدین سے عشق کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ان کی بچی ہی شمار کی جاتی ہے، اس کے بعد اُس کے ہاتھ پیلے کر کے اُسے شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اُس کے بعد وہ ایک ایسی عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے (خاندانی مسائل، تربیت اولاد اور خانہ داری جیسے مسائل سے متعلق) ہر چیز کو سمجھنے، ہر چیز کو جاننے اور ہر کام کو انجام دینے کی توقع کی جاسکتی ہے! پس اگر عورت یہاں چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے! لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کام کیجئے کہ جب ایک لڑکی شوہر کے گھر جائے تو وہ جس سن و سال میں بھی ہو امن و سکون کا احساس کرے اور اسے یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ (شوہر یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے) کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اس نکتے کی طرف توجہ فرمائیے! اگر آپ یہ ماحول فراہم کر سکیں تو ضرور اقدام کیجئے تو میری نظر میں آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر میں ناحق بات نہیں سننے یا اگر وہ کسی ظلم کا نشانہ بنے یا اُس سے ناحق بات کی جائے تو اپنے حق کا دفاع کر سکے اور وہ قانونی امکانات کے ذریعے اپنے حق کو محفوظ رکھ سکے اور یہ کام اتنا اہم ہے کہ میری نظر، توجہ اور فکر کا زیادہ حصہ (ایک مسلمان عورت کیلئے) اسی ماحول کی فراہمی میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ (ہمارے معاشرے سمیت دیگر اسلامی ممالک میں) عورت کو یہ ماحول فراہم نہیں ہو سکا ہے حتیٰ کہ مومن و متقی افراد کے گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے اور موجودہ زمانے کے گھرانے بھی اس آئیڈیل ماحول سے محروم ہیں۔

۱۔ یہاں بہت سے لوگ ان توہمات کا شکار ہیں کہ یہ کیا حق و حقوق کی رٹ لگا رکھی ہے؟! حق و حقوق تو اس وقت بات ہے جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہو۔ جب وہ شوہر کے گھر آگئی تو کون سا حق اور کیسے حقوق؟! سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا جنازہ ہی اس کے شوہر کے گھر سے نکلے گا! وغیرہ وغیرہ... یہ افراد احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگر لڑکی شوہر کے گھر آجائے تو صحیح ہے کہ اس کے اپنے گھر سے متعلق کچھ حقوق ختم ہو جاتے ہیں لیکن شوہر کے گھر اس کے حقوق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس میں سب سے پہلے امن و سکون کا ماحول اور ناحق بات اور ظلم و ستم سے دوری وغیرہ شامل ہیں۔ شادی کرنے سے عورت کی ذات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ شوہر کے گھر آنے سے اُس کی شخصیت مزید نکھر جاتی ہے اور اس کا اجتماعی روپ سامنے آتا ہے، اب وہ ایک بیوی کے روپ میں پہلے سے زیادہ حساس وجود رکھتی ہے۔ اپنے میکے، والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آنے والی ایک لڑکی جو اب شوہر کے ساتھ اس کے نئے گھر، نئے افراد اور نئے ماحول میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ مزید حساس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب تربیت اولاد کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے۔ غرضیکہ شادی سے عورت کا وجود ختم ہونے کے بجائے مزید وسعت، نکھار اور خوبصورتی اور زیبائی حاصل کرتا ہے۔ (مترجم)

چند سال قبل ایک پی ایچ ڈی خاتون نے ہم سے شکایت کی کہ اُس کا شوہر جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے ، مجھ پر (مختلف مسائل زندگی میں) زور و زبردستی کرتا ہے اور یہ خاتون اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے اور ایسی بہت سے مثالیں ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکیں تو ان تمام چیزوں کو قوانین کے ذریعے ختم کر دیجئے (تاکہ خواتین کے حقوق شوہروں کے ظلم اور زبردستی کی وجہ سے ضایع نہ ہوں) وہ نکتہ کے جسے مینے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد کی بہ نسبت عورت کا جسمانی لحاظ سے کمزور ہونا اس پر ظلم ہونے کا باعث بنا ہے تو اُسے معرفت اور تعلیم کے ذریعے سے ایک جہت سے اور قانون کی مدد سے دوسری جہت سے مضبوط بنانا چاہیے یعنی خواتین کے ہاتھ میں ان کے حقوق کے دفاع کے اقتدار کے وسائل دینے چاہئیں۔ یہ وسائل ، معرفت اور تعلیم کی طرف سے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں ایک طرف سے مانع بن جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف قانون ہے جو خواتین کے حقوق اور ظلم سے اُن کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اگر یہ ”دونوں طرف“ خواتین کیلئے فراہم ہو جائیں تو یہ ایک قابلِ تحسین امر ہے۔ آپ اپنی خواتین کو تحصیل علم اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی ترغیب دلائئے اور اعلیٰ تعلیمی مراکز میں اپنی بیٹیوں کے داخلے کو قانونی لحاظ سے سہل و آسان بنائیے۔ اگر یہ چیز حاصل ہوگئی تو میری نظر میں تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ مثلاً فرض کیجئے کہ موجودہ زمانے میں ممکن ہے کہ خواتین کو اس بارے میں فکر لاحق ہو کہ وہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتیں یا ٹرک ڈرائیور کیوں نہیں بنیں؟ فلاں کام انجام کیوں نہیں دیتیں؟ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے اور نا ہی ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے کہ انسان ان کیلئے جدوجہد کرے۔

ہندوستانی عورت اور روزانہ پانچ روپے اجرت!

میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میں ہندوستان میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم کے گھر مہمان تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے بعد استراحت کرنا چاہتے تھے تو اچانک باہر سے کسی چیز کو توڑنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑا سا صحن نما میدان ہے کہ جس میں مختلف پتھر پڑے تھے اور ایک چالیس پچاس سالہ مزدور عورت ہتھوڑی ہاتھ میں لیے بڑے پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ وہ عورت فرہ بدن کی مالک اور کالی تھی اور اُس نے خاص قسم کا لباس پہنا ہوا تھا کہ جب خواتین یہ لباس (جمپر) پہنتی ہیں تو اپنے بدن کا ایک حصہ _ سینہ کا اوپری حصہ _ کھلا رہنے دیتی ہیں۔ یہ وہاں کے لباس کا انداز ہے کہ لباس میں سینے کا اوپری حصہ کھلا رہتا ہے اور یہ فیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مزدور عورت بھی اسی حلیے میں تھی اور محنت مزدوری کے دوران اُس نے اپنے فیشن کو فراموش نہیں کیا تھا ! وہ سخت محنت کرتے ہوئے مسلسل پتھروں کو توڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ عورت یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ ”یہ مزدور ہے“ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ ”یہ روزانہ کتنی اجرت لیتی ہے؟“ اُس نے کہا کہ ”روزانہ کے چار یا پانچ روپے“۔ اس وقت ہندوستانی ایک روپیہ شاید ہمارے پندرہ ریال کے برابر تھا۔ یعنی سالانہ تقریباً انسٹھ یا ساٹھ روپے! یعنی وہ تقریباً دس تومان روزانہ کی اجرت لیتی تھی اور اس کیلئے روزانہ چودہ یا بارہ گھنٹے محنت و مشقت کرتی اور پتھروں کو توڑتی تھی!

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ماحول میں ایک عورت کو اس طرح کا کام نہیں دیا جاتا ہے ۱ اور یہ بات خود باعث افتخار ہے۔ البتہ عورت اپنے کھیتوں میں اپنے لیے کام کرتی ہے لیکن وہ دوسروں کی مزدور نہیں بنتی ہے۔ ایسے وقت ایک انسان اُنے اور بڑی جدوجہد کے بعد فرض کیجئے کہ عورت کے ٹرک ڈرائیور ہونے کے امکانات فراہم کرے! ان باتوں کی قطعاً کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ۲

۱ یہ تقریر اسلامی انقلاب کے تقریباً اٹھارہ سال بعد کی ہے۔ ایرانی معاشرے میں یقیناً یہ حالات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی انقلاب کی کامیابی کے بعد تھے۔ مگر ہندوستان و پاکستان جیسے ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے ممالک میں عورت بھی مرد مزدوروں کے ساتھ مکانات کی تعمیر، روڈوں کی تعمیر، سڑکوں کی صفائی اور دیگر کاموں کو انجام دیتی ہے۔ یہاں ہمارا معاشرہ عورت کی نسوانیت، اس کے صنف نازک ہونے اور اس کی عزت و آبرو کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ (مترجم)

۲ ۱۹۹۷ میں پارلیمنٹ کی خواتین اراکین سے خطاب

عورت ، گوہر ہستی

پانچواں باب

اسلامی خواتین کا آئیڈیل

دریچہ

اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کیلئے حقوق، حدود اور آئیڈیل کو مشخص اور واضح کیا ہے بلکہ اپنی تعلیمات کے مطابق ان آئیڈیل اور مثالی نمونوں کو پرورش دیتے ہوئے انہیں عوام کے سامنے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے اور پیروی کرنے کیلئے قرار دیا ہے۔ اسلام میں آئیڈیل شخصیات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ معروف اور کامل شخصیت حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی ہے۔ اگرچہ کہ ان کی زندگی بہت مختصر تھی لیکن زندگی کے مختلف شعبوں، جہاد، سیاست، گھر اور معاشرے و اجتماعیت میں ان کی زندگی کی برکت، نورانیت، درخشندگی اور جامعیت نے انہیں ممتاز اور بے مثل و نظیر بنادیا ہے۔

خواتین اپنے حقوق اور اسلام کی نظر میں عورت کے کردار میں معیار و میزان کے فہم اور ان معیاروں کی اساس پر اپنی تربیت و خود سازی کی روش و طریقہ کار کی دستیابی کیلئے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو اپنے سامنے موجود پاتی ہیں اور اس بنا پر وہ دیگر آئیڈیل شخصیات سے بے نیاز ہیں۔ حضرت زہرا علیہا السلام اور ان کی سراپا درس و سبق آموز زندگی کی طرف توجہ کرنا خواتین کو معنویت، اخلاق، اجتماعی فعالیت و جدوجہد اور گھرانے کے ماحول میں ان کی انسانی شان کے مطابق ایک مطلوبہ منزل تک پہنچانے کا باعث ہوگا۔ مردوں کے جہاد، فعالیت و جدوجہد اور خود سازی اور اجتماعی و معاشرتی وظائف میں ان کی پیشرفت میں خواتین بہت اہم کردار کی مالک ہیں اور حضرت زہرا علیہا السلام کی زندگی میں یہ کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب میں یہ کردار بہت واضح صورت میں ظہور پذیر ہوا اور تاریخ نے اس کردار کو سنہری حروف سے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔

پہلی فصل

حضرت زہرا علیہا السلام کی جامع و کامل شخصیت

حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام، عظیم نعمت الہی

حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت کی نسبت محبت و مجذوبیت کے مراحل کے بعد ہم جس نکتے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم معدن نور اور فضیلت کے اس منبع سے جتنی محبت کریں گے وہ کم ہی ہوگی اور اس میں ہمیشہ تشنگی باقی رہے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قلبی اور روحانی رابطے و رشتے کے ضمن میں ہمارا کیا وظیفہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم نے اپنی اس ذمے داری پر توجہ نہیں دی اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ممکن ہے خدانخواستہ یہ محبت ہمیں وہ نتیجہ نہ دے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ وہ تاریخ بشریت کی برترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ”یَاسِيْدَةُ نِسَائِ الْعَالَمِيْنَ“۔ ر اوی نے سوال کیا کہ ”هِيَ سَيِّدَةُ نِسَائِ الْعَالَمِهَا؟“، کیا آپ کی جدہ امجد اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں؟ امام نے جواب دیا کہ ”ذَاكَ مَرِيْمَ“، وہ جناب مریم تھیں جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، ”هِيَ سَيِّدَةُ نِسَائِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ“، ۱، ”وہ دنیا و آخرت میں اولین و آخرین کی سرور زنان ہیں“ اور ان کی یہ عظمت ان کے زمانے تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تمام مخلوقات عالم میں پوری تاریخ میں خلق کیے گئے ان کھربوں انسانوں کے درمیان اگر انگلیوں پر شمار کی جائے والی بہترین شخصیات کو ڈھونڈنا چاہیں تو ان میں سے ایک یہی مطہرہ و منورہ شخصیت ہے کہ جس کا نام اور یاد و ذکر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و احسان کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو ان کی یاد میں بسر کریں، ان کے بارے میں باتیں کریں اور اُس عظیم ہستی سے متعلق باتوں کو سنیں۔ لوگوں کی اکثریت ان سے غافل ہے جبکہ یہ ہم پر خداوند متعال کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ ہم ان سے متمسک ہیں۔ یعنی وہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کی مالک ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان علما اور مفکرین یہ بحث کرتے تھے کہ کیا حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت بلند ہے یا امیر المومنین

علي ابن ابی طالبؑ کا مقام زیادہ ہے؟ کیا یہ کوئی کم مقام و حیثیت ہے کہ مسلمان علما بیٹھیں اور ایک کہے کہ علی کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اور ایک کہے زہرا علیہا السلام کی عظمت زیادہ ہے! یہ بہت بلند مقام ہے۔ لہذا اُس عظیم المرتبت ذات سے ہمارے تعلق اور محبت نے ہمارے دوش پر ایک بہت سنگین ذمے داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اُس عظیم ذات کی سیرت اور نقش قدم پر چلیں، خواہ ان کا ذاتی و انفرادی کردار ہو یا اُن کی اجتماعی و سیاسی زندگی۔ راستہ یہی ہے کہ جس نے آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے لوگوں کیلئے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے۔

۱ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۲۶

یہ وہی حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی راہ ہے یعنی خودسازي (تعمیر ذات) اور جہان سازی (تعمیر دنیا) کی راہ۔ خود سازی یعنی اس جان و روح کی آبادی و تعمیر کہ جس کیلئے جسم کا پیکر خاکی دیا گیا ہے فاطمہ زہرا علیہا السلام ”گائت ثَقُومٌ فِي مِحْرَابٍ عِبَادَتَهَا حَتَّى تَوَرَّمتَ قَدَمَاهَا“ ۱۔ اس عظیم اور جوان دختر نے کہ جو اپنی شہادت کے وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی، اتنی عبادت کی آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے! یہ عظیم المرتبت خاتون اتنے عظیم مقام و منزلت کے باوجود گھر کے کام بھی خود انجام دیتی تھیں اور شوہر کی خدمت بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت بھی انہی کے ذمے تھی۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کے بچپن کا سخت ترین زمانہ

یہ عظیم خاتون ایک گھریلو عورت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، شوہر، بچے سب کچھ اور یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بھی تھی۔ یہ بانوئے عصمت و طہارت، زندگی کے سخت سے سخت مراحل میں اپنے شوہر اور والد کیلئے دلجوئی اور دلگرمی کا سبب تھی۔ حضرت زہرا علیہا السلام نے بعثت کے پانچویں سال دنیا میں قدم رکھا کہ جب پیغمبر اکرمؐ کی دعوت حق اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام سختیوں، مشکلات اور مصائب نے پیغمبر اکرمؐ اور ان کے گھرانے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا۔

۱ بحار الانوار۔ جلد ۴۳ صفحہ ۷۶

یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی ولادت کے وقت شہر کی خواتین حضرت خدیجہ علیہا السلام کی مدد کیلئے نہیں آئی تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرمؐ کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کا ہر طرح سے بانیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر قسم کے رابطے اور تعلقات کو بالکل قطع کر دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے رسول خداؐ پر دباؤ ڈالا جاسکے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت خدیجہ علیہا السلام جیسی فداکار اور ایثار کرنے والی عورت نے استقامت دکھائی۔ آپ اپنے شوہر حضرت ختمی مرتبتؐ کی دلجوئی فرماتیں اور اس کے بعد گھر میں اپنے بیٹی کی دیکھ بھال اور تربیت کرتیں۔ جب یہ دختر نیک اختر بڑی ہوئی اور پانچ چھ سال کی عمر کو پہنچی تو شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اس کو ہستانی وادی کی گرمی، بھوک، سختی، دباؤ اور غریب الوطنی کی مشکلات کو اس وقت تحمل کیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شعب ابی طالب میں آفتاب کی تمازت سے دھکنے والے دن، سرد راتیں اور اس علاقے کی شب و روز میں ناقابل تحمل آب و ہوا، ان دشوار حالات میں بچے بھوکے پیٹوں اور نشنہ لبوں کے ساتھ ان افراد کے سامنے ٹڑپتے رہتے تھے۔ سختی اور مشکلات کے یہ تین سال کہ رسول اکرمؐ نے مکے سے باہر بیابان میں اسی طرح گزارے۔

فاطمہ زہرا علیہا السلام اپنے والد کی مونس و غمخوار

یہ بیٹی، ان سخت ترین حالات میں اپنے والد کیلئے فرشتہ نجات تھی اور یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ علیہا السلام نے داعی اجل کو لبیک کہا اور یہی وقت تھا کہ جب آپ کے محسن اور چچا، حضرت ابو طالب نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور پیغمبر اکرمؐ کو یکتا و تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور غم و مشکلات کی گرد و غبار کو اُن کو چہرے سے صاف کرتی۔ اس بچی نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ پیغمبرؐ نے اس سات، اٹھ سالہ دختر کو کہا ”اُمُّ اَبِيهَا“، یعنی ”ماں“، یعنی یہ بچی اپنے والد کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔

ایسا باپ کہ عالم کی تمام مشکلات نے جسے اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود تمام بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اُس کے دوش پر تھی۔ وہ ایسا پیغمبر تھا کہ اُس کا رب اُسے سختیوں، مشکلات، غموں کے برداشت کرنے اور حق میں مسلسل اور اُن تھک محنت و مشقت کی وجہ سے اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ ”طہ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى“ ۱ اے رسول تم خود کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہو؟ اتنا رنج کیوں اٹھاتے ہو اور اپنی پاک و پاکیزہ روح پر اتنا دباؤ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ختمی مرتبت کی روح پر دباؤ بہت زیادہ تھا اور دشوار ترین حالات میں یہ چھوٹا فرشتہ، معنوی و ملکوتی روح کی حامل بیٹی اور دختر پیغمبر اکرم اس نور کی مانند ہے جو پیغمبر اکرم اور نئے مسلمان ہونے والے افراد کی تاریک شبوں میں اپنی پوری آب و تاب اور نورانیت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ امیر المومنین کا وجود بھی بالکل ایسا ہی نورانی تھا۔ روایت میں ہے کہ ”سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ زَهْرًا“؟ ۲ حضرت فاطمہ کو ”زہرا“ اس لیے کہا جاتا ہے آپ دن میں تین بار حضرت علی کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتیں۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کی علمی فضیلت اور راہ خدا میں آپ کا جہاد اگر عورت مرد کی پشت پناہ ہو اور زندگی کے مختلف میدان ہائے عمل میں اُس کے شانہ بشانہ، قدم بقدم اور اس کی ہمت و حوصلے کو بڑھانے والی ہو تو مرد کی قوت و طاقت کئی برابر بوجاتی ہے۔ یہ حکیمہ، عالمہ اور محدثہ خاتون، یہ خاتون کہ جو عالم ہائے غیب سے متصل تھی، یہ خاتون کہ فرشتے جس سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرتے تھے ۳ اور یہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس کا قلب، علی و پیغمبر کے قلوب کی مانند ملک و ملکوت کے عالموں کی نورانیت سے منور تھا، اپنی تمام تر استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے تمام تر اعلیٰ درجات کے ساتھ تمام مراحل زندگی میں جب تک زندہ رہی (اپنے شوہر، صحابی رسول، اپنے امام وقت اور) امیر المومنین کے پیچھے ایک بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہی۔

آپ نے اپنے امام وقت اور اس کی ولایت کے دفاع کیلئے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور حضرت علی کی حمایت میں ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے علما اور دانشوروں نے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ اور بے مثال کلمات، جملوں کی ترتیب،

۱ سورہ طہ / ۲۰۱ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۱۶

۳ حضرت استاد مولانا سید آغا جعفر نقوی مرحوم اپنے استاد آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی (آقائے شریعت) سے نقل فرماتے تھے کہ حدیث کسا کی راوی حضرت زہرا ہیں اور یہ آپ کی عظمت و فضیلت ہے کہ آپ حضرت جبرئیل اور خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خود سن کر نقل فرما رہی ہیں! (مترجم)

معانی اور اُس کے ظاہر و باطن کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا ہے! یہ نکتہ بہت ہی عجیب ہے۔ علامہ مجلسی نے ائمہ علیہم السلام سے اتنی کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا اور ہمارے لیے گرانہا ذخیرہ چھوڑا ہے لیکن جب اس خطبے کے مقابل اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اُن کا وجود فرط جذبات و احساسات اور خطبے کی عظمت سے لرز اٹھتا ہے! یہ بہت ہی عجیب خطبہ ہے اور اسے نہج البلاغہ کے خوبصورت اور فصیح و بلیغ ترین خطبوں کا ہم وزن شمار کیا جاتا ہے۔

ایسا خطبہ جو شدید ترین غم و اندوہ کے عالم میں، مسجد النبی میں سینکڑوں مردوں اور مسلمانوں کے سامنے دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ بغیر کسی تیاری اور تفکر کے فی البدیہ اس عظیم خاتون کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس کا وہ بیان رسا، اس کی حکمتیں، عالم غیب سے اُس کا رابطہ، وہ عظیم ترین مطالب، وہ معرفت الہی و شریعت کے گوہر ہائے بے مثل و نظیر، وہ عمق و گہرائی، وہ عظمت الہی کو بیان کرنے والے کلام کی رفعت و بلندی اور سب سے بڑھ کر وہ نورانی قلب کہ جس سے حکمت و معرفت کہ یہ چشمے جاری ہوئے، وہ نورانی بیان کہ جس نے سب کو مبہوت کر دیا اور وہ نورانی اور مبارک زبان کہ جس کے ذریعے اُس خاتون نے اپنے کلمات کو خدا کی راہ میں بیان کیا۔ اس تمام عظمت و فضیلت کے بارے میں ہمارے سرمائے کی کیا حیثیت ہے کہ اگر ہم اُسے مکمل طور پر خدا کی راہ میں خرچ کر دیں! ہمارے سرمائے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا سرمایہ اُس عظیم سرمائے کہ جسے حضرت زہر علیہا السلام، اُن کے شوہر، اُن کے والد ماجد اور ان کی اولاد نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، قابل مقایسہ ہے!؟

ہمارا یہ مختصر علم، ہماری یہ ناقابل قوت بیان و زبان، قلیل سرمایہ، مختصر پیمانے پر ہمارا اثر و نفوذ، ہماری محدود صلاحیتیں اور نچلی سطح کی مختصر سی معرفت اُس عظیم اور بے مثل و نظیر ذخیرے کے مقابلے میں کہ جسے خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے ملکوتی و نورانی وجود میں قرار دیا تھا، کس اہمیت کا حامل ہے؟! ہمارے پاس ہے ہی کیا جو راہ خدا میں بخل سے کام لیں؟ آج علی، فاطمہ علیہما السلام اور ائمہ کی راہ وہی امام خمینیؑ کی راہ ہے۔ اگر کسی نے اس (راہ اور اس راہ دکھانے والی شخصیت) کو نہ جانا اور نہ سمجھا ہو تو اسے اپنی بصیرت کے حصول کیلئے از سر نو جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اسی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت سے ہمارے تعلق اور لگاؤ کو حقیقت کا رنگ بخشتی ہے ۱۔

۱۵۱ دسمبر ۱۹۹۲ میں نوحہ خوان حضرات سے خطاب

فاطمہ علیہا السلام، عالم ہستی کا درخشاں ستارہ

ہم نے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے بارے میں حقیقتاً بہت کم گفتگو کی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں؟ اس انسیتِ حورائے روح مجرد اور خلاصہ نبوت و ولایت کے بابرکت وجود کے ابعاد اور جہات ہمارے سامنے اتنے زیادہ وسیع، لامتناہی اور ناقابل درک ہیں کہ ہم جب اس شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وادی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ زمانہ اُن من جملہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو انسان کو شخصیت کے صحیح طور پر پہنچانے اور درک کرنے کی راہ میں ممانع ہوتے ہیں۔

عالم بشریت کے اکثر و بیشتر ستارے اپنی حیات میں اپنے ہم عصر افراد کے ذریعے ناقابل شناخت رہے اور انہیں پہنچانا نہیں گیا۔ انبیا و اولیا میں سے بہت کم افراد ایسے تھے جو اپنے قریبی ترین مخصوص و مختصر افراد کے ذریعے پہچانے گئے۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے والد، شوہر، اولاد اور خاص شیعوں کے ذریعے سے بلکہ اُن افراد کے ذریعے سے بھی کہ جو حضرات زہرا علیہا السلام سے شاید اتنے قریب بھی نہیں تھے، مدح و ثنا کی گئی ہے۔

اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت

اگر آپ اہل سنت محدثین کی حضرت زہرا علیہا السلام کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ۰ کی زبان حضرت صدیقہ طاہرہ علیہا السلام کی مدح و ستائش میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں یا حضرت زہرا علیہا السلام سے آنحضرت ۰ کے کردار و سلوک کو بیان کیا گیا ہے یا ازواج نبی یا دیگر شخصیات کی زبانی تعریف کی گئی ہے۔

حضرت عائشہ سے یہ معروف حدیث نقل کی گئی ہے ”وَاللّٰهُ مَا رَأَيْتُ فِي سَمْتِهِ وَهَدِيَةِ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَاطِمَةَ“۔ مینے پیغمبر اکرم کی شکل و شمائل، ظاہری قیافے، درخشندگی اور حرکات و رفتار کے لحاظ سے کسی ایک کو بھی فاطمہ سے زیادہ شبابت رکھنے والا نہیں پایا۔ ”وَكَانَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ قَامَ إِلَيْهَا“۔ جب فاطمہ زہرا علیہا السلام رسول اللہ ۰ کے پاس تشریف لائیں تو آپ ۰ اُن کے احترام میں کھڑے ہوجاتے اور مشتاقانہ انداز میں ان کی طرف بڑھ کر اُن کا استقبال کرتے۔ یہ ہے ”قَامَ إِلَيْهَا“ کی تعبیر کا معنی۔ ایسا نہیں تھا کہ جب حضرت زہرا علیہا السلام تشریف لائیں تو آپ ۰ صرف کھڑے ہو کر اُن کا استقبال کرتے، نہیں! ”قَامَ إِلَيْهَا“ یعنی کھڑے ہو کر اُن کی طرف قدم بڑھاتے بعض مقامات پر اسی راوی نے اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ”وَكَانَ يُقْبَلُهَا وَيُجْلِسُهَا مَجْلِسَهُ“۔ ”وہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کو پیار کرتے، چومتے اور اُن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے“۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کا مقام و منزلت۔ اس باعظمت شخصیت کے بارے میں ایک عام انسان کی کیا مجال کہ وہ لب گشائی کرے!

سیرت حضرت زہرا علیہا السلام کی کما حقہ معرفت

میرے محترم دوستو! حضرت فاطمہ علیہا السلام کی عظمت و فضیلت اُن کی سیرت میں واضح و آشکار ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا علیہا السلام کے بارے میں کیا شناخت و آشنائی رکھتے ہیں۔ اہل بیت کے محبوں نے پوری تاریخ مینحتی الامکان یہی کوشش کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی کما حقہ معرفت حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ عظیم شخصیت صرف ہمارے زمانے میں ہی ہر دلغیز ہے۔ آج الحمد للہ اسلامی حکومت کا زمانہ

ہے اور حکومت قرآن ، حکومت علوی اور حکومت اہل بیت کا دور دورہ ہے جو کچھ دل میں موجزن ہے وہ زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔
 دنیائے اسلام کی قدیمی ترین جامعہ (یونیورسٹی) جس کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے ہے، حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے نام پر ہے۔ اسی معروف جامعۃ الازہر کا نام حضرت زہر علیہا السلام کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ اُن ایام میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے نام پر یونیورسٹی بناتے تھے۔ مصر میں حکومت کرنے والے فاطمی خلفائے سب شیعہ تھے۔ بنا براین ، صدیوں سے شیعوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس عظیم ہستی کی کماحقہ معرفت حاصل کریں۔

عظمت خدا کا ایک نمونہ!

ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام ستاروں سے اپنی راہ تلاش کریں۔ ”وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ“ ۱۔ عاقل انسان کا یہی عمل ہوتا ہے۔ ستارہ جو آسمان پر چمک رہا ہے اُس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ستاروں کی بھی اپنی ایک

۱ سورہ نحل / ۱۶

عجیب اور عظیم دنیا ہے۔ کیا یہ ستارے بھی ہیں کہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ان چھوٹے سے ستاروں میں سے بعض ستارے کہکشائیں کہ جس میں خود اربوں ستارے موجود ہیں، سے بڑے ہیں! قدرت الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اندازہ۔ عاقل انسان کہ جسے خداوند عالم نے قوتِ بصارت دی ہے، کو چاہیے کہ اپنی زندگی کیلئے ان تمام ستاروں کے وجود سے فائدہ حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ”وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ“۔ یہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ کو پاتے ہیں۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام سے درس خدا لیجئے!

میرے عزیز دوستو! عالم خلقت کا یہ درخشاں ستارہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت اور مقام و منزلت اس ظاہری اور نظر آنے والے وجود سے بہت بلند و برتر ہے۔ ہم حضرت زہر علیہا السلام سے صرف ایک نور و روشنی دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت اس سے بہت آگے اور بلند ہے۔ میں اور آپ ان بزرگوار ہستی سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ ”تُظْهِرُ الْأَهْلَ السَّمَاوِيَّ“ عالم ملکوت کے رہنے والوں کی آنکھیں حضرت زہرا علیہا السلام کے نور سے خیرہ ہو جاتی ہیں، تو میں اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں! یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاہیے کہ اس روشن و درخشاں ستارے سے خدا اور اس کی بندگی کی راہ کو ڈھونڈیں کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے اور فاطمہ زہرا علیہا السلام نے اس راہ کو پایا اور فاطمہ الزہراء بن گئیں۔ خداوند عالم نے اُن کے وجود کو اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عالم مادہ اور عالم ناسوت کے امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں گی۔

حضرت زہر علیہا السلام کے صبر اور غور و فکر کی عظمت! اِمْتَحَنَكَ اللهُ الَّذِي خَلَقَكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكَ فَوَجَدَكَ لِمَا اِمْتَحَنَكَ صَابِرَةً“ ۱۔ خدا نے آپ کی تخلیق سے قبل امتحان لیا اور ان تمام حالات میں آپ کو صابر پایا۔ اگر خداوند عالم نے (خلقت سے قبل) اُن کے (نورانی) وجود پر اپنا خاص لطف کیا ہے تو اُس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام (دنیوی) امتحانات میں کس طرح کامیاب ہونگی۔ ورنہ بہت سے افراد کی شروعات تو بہت اچھی تھیں

۱ مناقب، جلد ۳، صفحہ ۳۴۱

لیکن کیا وہ سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے؟ ہمیں اپنی نجات کیلئے حضرت زہرا علیہا السلام کی زندگی کے اس حصے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حدیث شیعہ راویوں سے نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ علیہا السلام سے فرمایا ”یا فاطمہ بنت محمد! اِنِّي لَا اَعْنِي عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“۔ اے میری پیاری لخت جگر، اے میری فاطمہ میں خدا کیلئے تم کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی تم اپنے غور و فکر کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آگے بڑھو اور ایسا ہی تھا۔ وہ

اپنی فکر و معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچیں۔

عورت ، گوہر ہستی

دوسری فصل

عملی سیرت

فاطمہ g، ماں کی خالی جگہ

آپ توجہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے اپنے بچپن سے لیکر شہادت تک کی مختصر زندگی کس طرح بسر کی ہے؟ اپنی شادی سے قبل کہ جب وہ ایک چھوٹی سے لڑکی تھیں تو انہوں نے نور و رحمت کے پیغمبر، دنیائے نور کو متعارف کرانے والی عظیم شخصیت اور عظیم عالمی انقلاب کے رہبر و مدیر کے ساتھ کہ جن کا انقلاب تاقیامت باقی رہے گا کہ جس دن سے انہوں نے اس پرچم توحید کو بلند کیا، حضرت زہرا علیہا السلام نے ایسا برتاؤ کیا کہ ان کی کنیت ”اُمّ اَبیہا“، ”اپنے والد کی ماں“ رکھی گئی۔ یہ نہی ان کی خدمت، کام، محنت و مشقت اور جدوجہد۔ بغیر کسی وجہ کے تو ان کو ”اُمّ اَبیہا“ نہیں کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ مکے کے شب و روز ہوں یا شعب ابی طالب کے اقتصادی و معاشی محاصرے کے سخت ترین دن و رات یا وہ وقت کہ جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ، رسول اکرم، کو تنہا چھوڑ گئیں اور پیغمبر کے قلب مبارک کو مختصر عرصے میں دو صدمے اٹھانے پڑے، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابوطالب کی بے در پے وفات۔ ایسے کڑے و مشکل وقت میں حضرت زہرا علیہا السلام آگے بڑھنا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول اکرم کے چہرہ مبارک پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کے گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنے والد کی تسلی کا سبب بنیں۔ حضرت زہرا علیہا السلام کی جدوجہد یہاں سے شروع ہوئی۔ آپ دیکھئے کہ حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت اور جدوجہد کا یہ بحر بیکراں کتنا عظیم ہے!

طلوع اسلام کے بعد علی و فاطمہ علیہا السلام کی خدمات

اس کے بعد اسلام کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ حضرت علی مرتضیٰ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوجاتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب ایک فداکار اور انقلابی رضاکار کا مصداق کامل ہیں۔ یعنی ان کا پورا وجود اسلام کی تبلیغ اور اُسے مضبوط بنانے اور خدا اور رسول کی خوشنودی و رضا کے حصول کیلئے وقف تھا۔ حضرت امیر المومنین نے اپنی ذات کیلئے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ کے آخری دس سالوں میں امیر المومنین نے جو کام بھی انجام دیا وہ صرف اسلام کی پیشرفت کیلئے تھا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا علیہا السلام، امیر المومنین اور ان کے بچے کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں نئے مسلمان ہونے والوں کیلئے وقف کر دیا تھا۔ ورنہ تو اگر یہ جوان تجارت اور کمانے کی فکر کرتا تو سب لوگوں سے زیادہ کما سکتا تھا۔ یہ وہی علی ہیں کہ جو آنے والے زمانے میں کنویں کھودتے تھے اور جب پانی تیزی سے ابلنے لگتا تو باہر تشریف لاتے اور مٹیالے پانی میں آلودہ اپنے ہاتھ و پیر کو دھوئے بغیر بیٹھ کر کنویں کو وقف کرنے کا حکم تحریر فرماتے۔ امیر المومنین نے اس قسم کے کام بہت زیادہ انجام دیئے ہیں، کتنے ہی نخلستانوں کو آپ نے خود آباد و سرسبز و شاداب بنا یا ہے، یہ وہی مدینہ ہے تو امیر المومنین اس مدینے میں بھوکے کیوں رہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ علیہا السلام خدمت رسول اکرم میں تشریف لے گئیں تو فاقوں کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ جب حضرت ختمی مرتبت نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو ان کا دل بہت بیکرار ہوا اور انہوں نے حضرت زہرا علیہا السلام کیلئے دعا کی۔

حضرت امیر المومنین کی تمام جدوجہد کا ہدف، خوشنودی خدا کا حصول اور اسلام کی پیشرفت تھی، انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رضاکار کا مصداق کامل ہیں۔ میں علی و فاطمہ علیہا السلام کے

نام نامی سے منسوب اس ملک کے تمام رضاکاروں (بسجیوں) کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنینؑ کو اپنے لیے اسوئہ عمل قرار دیں۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان رضاکاروں کیلئے سب سے بہترین اور بزرگترین اسوہ، حضرت علی ابن ابی طالبؑ ہیں۔

علی سے شادی کیلئے خدا کا انتخاب

حضرت زہرا علیہا السلام سے شادی کے بہت سے طلبگار تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لئے کہ آپ عالم اسلام کے عظیم رہبر اور حاکم وقت کی صاحبزادی تھیں۔ رشتے کے طلبگاروں میں بڑے بڑے افراد، صاحب مقام و حیثیت اور ثروت مند افراد شامل تھے۔ لیکن حضرت زہرا علیہا السلام نے راہ الہی میں اپنی پوری دنیا کو وقف کر دینے والے پاکیزہ نوجوان، جو ہمیشہ میدان جنگ کا شہسوار تھا، کا انتخاب کیا۔ یعنی یہ انتخاب خدا نے کیا تھا اور وہ بھی خدا کے انتخاب سے راضی اور خوشحال تھیں۔

رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت زہرا علیہا السلام نے حضرت علی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کی کہ امیر المومنینؑ ان سے پوری طرح سے راضی تھے۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت زہرا علیہا السلام نے حضرت علیؑ سے جو الفاظ اد اکیے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں آج عید کے دن ان (مصائب کے) جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، بچوں کی صحیح تربیت کی اور ولایت کے دفاع کیلئے تن من دھن، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس راہ میں تما صعوبتوں کو برداشت کیا اور اُس کے بعد خندہ پیشانی سے شہادت کا استقبال کیا اور اُسے خوشی خوشی گلے لگایا ۱۔

تیسری فصل

شوہروں کی جدوجہد و فعالیت میں خواتین کا بنیادی کردار

عورت کا جہاد!؟

مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ایک مرد مختلف قسم کی جدوجہد اور فعالیت انجام دینے میں اپنی بیوی کے

۱ نومبر ۱۹۹۴ میننوحہ خواں حضرات سے خطاب

ساتھ دینے، ہمراہی، صبر اور موافقت کا مرہون منت ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ”جہادُ المرأۃ حُسْنُ التَّبَعْلِ“، عورت کا جہاد بہترین شوہر داری ہے۔ ”حُسْنُ التَّبَعْلِ“ کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ صرف شوہر کے آرام و سکون کے وسائل فراہم کرے، حُسْنُ التَّبَعْلِ صرف یہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جہاد ہے۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ جب ایک مومن و فداکار عورت کا شوہر مختلف قسم کی سنگین ذمے داریوں کا حامل ہے تو اُس سنگین ذمے داری کا بارگراں آپ کے کندھوں پر بھی آئے گا اور آپ خواتین بھی ان کی ماموریت اور وظائف میں شریک ہوں گی۔ آپ خواتین کی خدمات اسی طرح کی ہیں۔

جب مرد دن بھر کے کام، کاج، تجارت اور دیگر وظائف کی بجا آوری سے تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو اُس کی تھکاوٹ کے اثرات گھر میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو تھکا ہوا، خستہ تن اور کبھی بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ اُس کے کام، افس یا تجارت و بازار سے آنے والی یہ خستگی، بداخلاقی اور درد سر گھر کی اندورنی فضا میں بھی منعکس ہوتی ہے۔ اب اگر یہ عورت جہاد کرنا چاہتی ہے تو اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی بداخلاقی اور کم ہمتی کا خوش اخلاقی سے جواب دے، اُن سختیوں اور زحمتوں کے ساتھ اپنی شیریں زندگی کی تعمیر کرے اور خدا کی خوشنودی کیلئے اُنہیں تحمل کرے۔ اسے کہا جاتا ہے حُسْنُ التَّبَعْلِ یا بہترین شوہر داری۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کا عظیم ترین جہاد!

جب رسول اکرمؐ نے مدینے ہجرت کی تو امیر المومنینؑ کی عمر مبارک تقریباً تئیس یا چوبیس سال تھی۔ ہجرت کے فوراً بعد مختلف قسم کے غزوات اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ ان تمام جنگوں یا غزوات میں یہ نوجوان یا علمدار سپاہ اسلام تھا

یاسب سے آگے آگے رہتا تھا یا جنگ کا شجاع ترین مجاہد تھا۔ غرضیکہ سب سے زیادہ ذمے داری اسی نوجوان کے پاس تھیں۔

جنگ تو موسم کے مطابق نہیں ہوتی ہے، کبھی موسم گرم ہے اور کبھی ٹھنڈا، کبھی صبح اور گھر میں بچہ بیمار ہے (اُسے دوا کی ضرورت ہے لیکن حکم جنگ آگیا تو اب جنگ کیلئے فوراً جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر)۔ رسول اکرم ﷺ کی دس سالہ حکومت میں تقریباً ستر چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں، کچھ جنگیں چند روز پر مشتمل تھیں اور کچھ جنگیں ایک ماہ کے طویل عرصے تک لڑی گئیں۔ صرف ایک جنگ کے علاوہ امیر المومنین نے تمام جنگوں اور غزوات میں شرکت کی۔ ان جنگوں میں شرکت کے علاوہ انہیں مختلف قسم کی ماموریت کیلئے بھیجا جاتا تھا، مثلاً رسول اکرم ﷺ نے امیر المومنین کو کچھ مدت کیلئے قضاوت کی غرض سے یمن بھیجا۔ بنابرین، یہ حضرت فاطمہ علیہا السلام تھیں جو ہمیشہ ان تمام حالات کا سامنا کرتی رہیں۔ یا اُن کے شوہر جنگ میں ہوتے یا زخمی و خون آلودہ بدن کے ساتھ گھر لوٹتے یا اگر یہ دونوں حالتیں نہیں بھی ہوتیں تو بھی پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں مختلف اہم امور کی انجام دہی کیلئے مدینے میں سرگرم عمل ہیں یا پھر سفر و ماموریت پر گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام نے ان تمام سخت و دشوار حالات کا جبکہ اُن کے فعال ترین شوہر ہمیشہ کاموں میں مشغول تھے، مہربانی، ایثار اور فداکاری سے مقابلہ کیا اور چار بچوں کو اپنی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک حضرت امام حسینؑ ہیں کہ پوری تاریخ بشریت میں پرچم آزادی کو بلند کرنے والی اُن سے بڑی شخصیت کوئی اور نہیں ہے۔ پس ”حُسْنُ التَّبَعْلِ“ کا معنی یہ ہے۔

یہ وجہ ہے کہ میرا یقین ہے اور اسی بنا پر تاکیداً آپ مرد حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مائیں خصوصاً آپ کی زوجات آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہیں اور یہ درحقیقت اُن کا آپ کی فعالیت، کام اور جدوجہد میں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ساتھ دینا ہے کہ جو انہوں نے انجام دیا۔ کبھی پچاس فیصد، کبھی ساٹھ فیصد اور کبھی ستر فیصد وہ آپ کے کاموں اور اجر و ثواب میں شریک ہیں۔

مرد، خواتین کی اکثر زحمتوں سے بے خبر ہیں!

اگر آپ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے زحمت و مشقت کو برداشت کرتی ہیں اور آپ کا شوہر کام، ملازمت، اجتماعی فعالیت و جدوجہد کی وجہ سے (نہ چاہتے ہوئے بھی) یہ زحمت و مشقت آپ کے کندھوں پر ڈالتا ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی اس زحمت و مشقت کا خدا کی بارگاہ میں اجر محفوظ ہے۔ خواہ وہ ایک لمحے و ایک گھنٹے ہی کا کیوں نہ ہو اور خواہ کوئی اُس کی طرف متوجہ نہیں بھی ہو۔

بہت سے افراد، خواتین (خصوصاً بیویوں) کی زحمت و مشقت سے بے خبر ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زحمت و مشقت وہ چیز ہے کہ جسے انسان اپنے زور بازو اور بدنی طاقت سے برداشت کرے یا انجام دے لیکن وہ لاعلم ہیں کہ کبھی کبھی روحی اور قلبی احساسات کے ذریعے برداشت کی جانے والی زحمت کا بار بہت سنگین ہوتا ہے اور لوگوں نے اسی مطلب کو اپنے ذہنوں میں بٹھالیا ہے۔ مرد حضرات بھی آپ خواتین کی زحمتوں سے اچھی طرح مطلع نہیں ہیں لیکن خداوند متعال ”لَا يَخْفِي عَلَيَّ خَافِيَةٌ“ ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، وہ آپ کے کاموں پر حاضر و ناظر ہے اور آپ اُس کی بارگاہ میں مآجور ہیں۔

پس آپ مرد حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ان خواتین کی قدر کیجئے کہ جو زندگی کے مسائل میں اپنے اپنے محاذ جنگ پر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی فعالیت و جدوجہد شریک ہیں۔ آپ خواتین کی خدمت میں بھی عرض کروں یہ مرد حضرات جو کام انجام دے رہے ہیں اگر اچھی طرح انجام دیں تو ان کے یہ کام بہترین کاموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ راہ انقلاب میں پاسداری و حفاظت، بہترین کاموں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوان شوہر جو اس ذمے داری کا حامل ہے، کی کامیابی میں اُس کی مدد کریں تو اُسی نسبت سے خدا کی بارگاہ میں آپ کی قدر و اہمیت اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمت و حوصلے سے ان وظائف کو انجام دینا ہی ہر ملک میں بڑے بڑے کاموں کی انجام دہی کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک ملک کے مردوں، خواتین اور پیرو جوان اور مختلف افراد کی ہمت و حوصلے اور ارادے و طاقت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اُس قوم سے عظمت و قدرت کا ایک سیلاب امتنا ہے کہ جو قوموں کی بے مثل و نظیر طاقت و قدرت کا باعث بنتا ہے ۱۔

۲۰۰۲ میں ولی امر مسلمین کی حفاظت پر مامور سپاہ سے خطاب

عورت ، گوہر ہستی

چھٹا باب

اسلامی گھرانہ اور خاندانی نظام زندگی

دریچہ

اسلام میں ایک معاشرے کی اصل اکائی گھرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام گھرانے اور خاندان کے استحکام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے کہ گھرانہ، آرام و سکون و آسائش، امن، تربیت و ایمان اور معنویت کی پرورش کا اور روحی اور نفسیاتی مشکلات کے حل کی جگہ ہے۔ یہ خاندان ہی ہے جہاں ثقافت، اعتقادات، خاندانی روایتیں اور آداب و رسوم اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے، ارادوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور خوشبختی اور بہشت بریں کا راستہ اسی گھرانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسلام نے گھر کے ماحول میں شادابی و نشاط اور معنویت و محبت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔

پہلی فصل

اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت

گھرانہ ، کلمہ طیبہ یا پاکیزہ بنیاد

گھرانہ، کلمہ طیبہ ۱ کی مانند ہے اور کلمہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ وجود میں آتا ہے تو مسلسل اس کے وجود سے خیر و برکت اور نیکی ملتی رہتی ہے اور وہ اپنے اطراف کی چیزوں میں نفوذ کرتا رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہی چیزیں ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے انسان کی فطری ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی صحیح بنیادوں کے ساتھ اُسے تحفہ دیا ہے۔ یہ سب کلمہ طیبہ ہیں خواہ وہ معنویات ہوں یا مادیات ۲۔

گھرانہ ، انسانی معاشرے کی اکائی

جس طرح ایک انسانی بدن ایک اکائی ”سیل“ یا ”خلیے“ سے تشکیل پاتا ہے اور ان خلیوں کی نابودی، خرابی اور بیماری خود بخود اور فطری طور پر بدن کی بیماری پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ان اکائیوں ”خلیوں“ میں پلنے والی بیماری بڑھ جائے تو خطرناک شکل میں بڑھ کر پورے انسانی بدن کیلئے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ بھی اکائیوں سے مل کر بنا ہے جنہیں ہم ”گھرانہ“ کہتے ہیں اور گھرانہ انسان کے معاشرتی بدن کی اکائی ہے۔ جب یہ صحیح و سالم ہوں گے اور صحیح اور اچھا عمل انجام دیں گے تو معاشرے کا بدن بھی یقیناً صحیح و سالم ہوگا۔ ۳

۱ سورہ ابراہیم کی آیت ۲۴ کی طرف اشارہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے کہ جیسے ایک شجر طیبہ کہ جس کی جڑیں زمین میں مستحکم ہوں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہوں۔۔۔۔۔“ ۲ خطبہ نکاح 2000/3/6
۳ خطبہ نکاح 2002/5/29

اچھا گھرانہ اور اچھا معاشرہ

اگر کسی معاشرے میں ایک گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہوجائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، آپس میں خوش رفتاری، اچھے اخلاق اور باہمی تعاون سے پیش آئیں، مل کر مشکلات کو حل کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو وہ معاشرہ بہتر صورتحال اور نجات سے ہمکنار ہوگا اور اگر معاشرے میں کوئی مصلح موجود ہو تو وہ معاشروں کی اصلاح کرسکتا ہے۔ لیکن اگر صحیح و سالم اور اچھے گھرانے ہی معاشرے میں موجود نہ ہوں تو کتنے ہی

بڑے مصلح کیوں نہ آجائیں وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ۱
 ہر وہ ملک جس میں گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہوں تو اُس ملک کی بہت سے مشکلات خصوصاً اور اخلاقی مشکلات اُس
 مستحکم اور صحیح و سالم گھرانے کی برکت سے دور ہوجائیں گے یا سرے ہی سے وجود میں نہیں آئیں گی۔ ۲
 گھر کو بسانا دراصل انسان کی ایک اجتماعی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے میں ”گھرانے“ صحیح و سالم اور
 مستحکم ہوں، حالات زمانہ اُن کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کریں اور وہ مختلف قسم کی اجتماعی آفات سے محفوظ ہوں
 تو ایسا معاشرہ اچھی طرح اصلاح پاسکتا ہے، اس کے باشندے فکری رشد حاصل کر سکتے ہیں، وہ روحانی لحاظ سے
 مکمل طور پر صحیح و سالم ہوں گے اور وہ ممکن ہے کہ نفسیاتی بیماریوں سے بھی دور ہوں۔ ۳

گھرانہ، روح و ایمان اور پاکیزہ فکر و خیال کی بہترین پرورش گاہ
 اچھے گھرانوں سے محروم معاشرہ ایک پریشان، غیر مطمئن اور زبوں حالی کا شکار معاشرہ ہے اور ایک ایسا معاشرہ
 ہے کہ جس میں ثقافتی، فکری اور عقائدی ورثہ آنے والی نسلوں تک با آسانی منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں
 انسانی تربیت کے بلند مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے یا اُس میں صحیح و سالم گھرانوں کا فقدان ہوتا ہے یا پھر اُن کی بنیادیں
 متزلزل ہوتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں انسان اچھے تربیتی مراکز اور پرورش گاہوں میں بھی اچھی پرورش نہیں پاسکتے۔
 ۴

صحیح و سالم گھرانے کا فقدان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ نہ اُس میں بچے صحیح پرورش پاتے ہیں اور نہ ہی نوجوان اپنی
 صحیح شخصیت تک پہنچ سکتے ہیں اور انسان بھی ایسے گھرانوں میں کامل نہیں بنتے۔ اس گھر سے تعلق رکھنے والے
 میاں بیویں بھی صالح اور نیک نہیں ہوں گے، اس گھر میں اخلاقیات کا بھی فقدان ہوگا اور گزشتہ نسل کے اچھے اور قیمتی
 تجربات اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ ۱ جب ایسے معاشرے میں اچھے گھرانے موجود نہ ہوں تو جان لیجئے کہ
 اس معاشرے میں ایمان اور دینداری کو وجود میں لانے کا کوئی مرکز موجود نہیں ہے۔ ۲

۱ خطبہ نکاح 1993/9/5
 ۲ خطبہ نکاح 1997/11/23
 ۳ خطبہ نکاح 1995/8/23
 ۴ خطبہ نکاح 1996/1/1

ایسے معاشرے کہ جن میں گھرانوں کی بنیادیں کمزور ہیں یا جن میں اچھے گھرانے سرے ہی سے وجود نہیں رکھتے یا
 اگر ہیں تو ان کی بنیادیں متزلزل ہیں تو وہ معاشرے نابوی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ ایسے معاشروں میں نفسیاتی الجھنوں
 اور بیماریوں کے اعداد و شمار اُن معاشروں کی بہ نسبت زیادہ ہیں جن میں اچھے اور مستحکم گھرانے موجود ہیں اور مرد
 و عورت ”گھرانے“ جیسے ایک مضبوط مرکز سے متصل ہیں۔ ۳

گھرانہ، سکون اور اصلاح کا مرکز

انسانی معاشرے میں گھرانہ بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت اور معنوی، فکری اور
 نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم انسانوں کی پرورش کیلئے گھرانے کے فوائد تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی
 چیز تعلیم و تربیت کے میدان میں گھر و گھرانے کی جگہ لے سکتی ہے۔ جب خاندانی نظام زندگی بہتر انداز میں موجود ہو
 تو ان کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک کیلئے دیکھ بھال کرنے والے (والدین جیسے دو شفیق موجود) ہمیشہ ان کے ہمراہ
 ہوں گے کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ۴

”گھرانہ“ ایک امن و امان کی وادی محبت اور پُر فضا ماحول کا نام ہے کہ جس میں بچے اور والدین اس پُر امن ماحول اور
 قابل اعتماد فضا میں اپنی روحی و فکری اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں محفوظ رکھتے ہوئے اُن کی پرورش اور
 رُشد کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خاندانی نظام کی بنیادیں ہی کمزور پڑجائیں تو آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہوجاتی
 ہیں۔ ۵

انسان تربیت، ہدایت اور کمال و ترقی کیلئے خلق کیا گیا ہے اور یہ سب اہداف صرف ایک پر امن ماحول

- ۱ خطبہ نکاح 2000/5/20
 ۲ خطبہ نکاح 1993/2/1
 ۳ خطبہ نکاح 2000/3/12
 ۴ خطبہ نکاح 2000/5/25
 ۵ خطبہ نکاح 1997/3/9

میں ہی حاصل ہوسکتے ہیں۔ ایسا ماحول کہ جس کی فضا کو کوئی نفسیاتی الجھن آلودہ نہ کرے اور ایسا ماحول کہ جس میں انسانی صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچ سکیں۔ ان مقاصد کے حصول کیلئے ایسے ماحول کا وجود لازمی ہے جس میں تعلیمات ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منعکس ہوں اور انسان بچپن ہی سے صحیح تعلیم، مددگار نفسیاتی ماحول اور فطری معلموں یعنی والدین کے زیر سایہ تربیت پائے جو عالم دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس پر مہربان ہیں۔^۱ اگر معاشرے میں صحیح خاندانی نظام رائج نہ ہو تو انسانی تربیت کے تمام اقدامات ناکام ہو جائیں گے اور اُس کی تمام روحانی ضرورتوں کو مثبت جواب نہیں ملے گا۔ یہ وجہ ہے کہ انسانی تخلیق اور فطرت ایسی ہے کہ جو اچھے گھرانے، صحیح و کامل خاندانی نظام کے پر فضا اور محبت آمیز ماحول اور والدین کی شفقت و محبت کے بغیر صحیح و کامل تربیت، بے عیب پرورش اور نفسیاتی الجھنوں سے دور اپنی لازمی روحانی نشوونما تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ انسان اپنی باطنی صلاحیتوں اور اپنے احساسات و جذبات کے لحاظ سے اُسی وقت مکمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک مکمل اور اچھے گھرانے میں تربیت پائے۔ ایک مناسب اور اچھے خاندانی نظام کے تحت چلنے والے گھر میں پرورش پانے والے بچوں کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم اور ہمدردی اور مہربانی کے جذبات سے سرشار ہوں گے۔^۲ ایک گھرانے میں تین قسم کے انسانوں کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ ایک مرد ہیں جو اس گھر کے سرپرست یا والدین ہیں، دوسرے درجے پر خواتین جو ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں اور تیسرے مرحلے پر اولاد جو اس معاشرے کی آنے والے نسل ہے۔^۳

اچھے گھرانے کی خوبیاں

ایک اچھا گھرانہ یعنی ایک دوسرے کی نسبت اچھے، مہربان، پر خلوص جذبات اور احساسات کے مالک اور ایک دوسرے سے عشق و محبت کرنے والے میاں بیوی جو ایک دوسرے کی جسمانی اور روحانی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فعالیت، کام کاج اور ضرورتوں کو اہمیت دیں اور ایک دوسرے کو آرام و سکون اور بہتری اور بھلائی کو مدنظر رکھیں۔

۱ خطبہ نکاح 1997/8/11 ۲ خطبہ نکاح 1995/11/25 ۱ خطبہ نکاح 1995/5/9

دوسرے درجے پر اس گھر میں پرورش پانے والی اولاد ہے کہ جس کی تربیت کیلئے وہ احساس ذمہ داری کریں اور مادی اور معنوی لحاظ سے اسے صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں۔ اُن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اُن کے بچے مادی اور معنوی لحاظ سے بہتری اور سلامتی تک پہنچیں، وہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دیں، انہیں مودب بنائیں، اچھے طریقوں سے اپنی اولاد کو بُرے کاموں کی انجام دہی سے روکیں اور بہترین صفات سے اُن کی روح کو مزین کریں۔ ایک ایسا گھرانہ دراصل ایک ملک میں ہونے والی تمام حقیقی اصلاحات کی بنیاد فراہم کرسکتا ہے۔ چونکہ ایسے گھرانوں میں اچھے انسان ہی تربیت پاتے ہیں اور وہ بہترین صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ شجاعت، عقلی استدلال، فکری آزادی، احساس ذمہ داری، پیار و محبت، جرأت و بہادری، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دوسروں کی خیر خواہی اور اپنی خاندانی پاکیزگی اور نجابت کے ساتھ پرورش پانے والے لوگوں کا حامل ہو تو وہ کبھی بدبختی اور روسیاهی کی شکل نہیں دیکھے گا۔^۱

اچھے خاندانی نظام میں ثقافت کی منتقلی کی آسانی

ایک معاشرے میں اُس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اصولوں کی حفاظت اور آئندہ نسلوں تک اُن کی منتقلی اچھے

گھرانے یا بہترین خاندانی نظام کی برکت ہی سے انجام پاتی ہے۔^۲

رشتہ ازدواج میں نوجوان لڑکے اور لڑکی کے منسلک ہونے کا سب سے بہترین فائدہ ”گھر بسانا“ ہے۔ اس کا سبب بھی

یہی ہے کہ ایک معاشرہ اچھے گھرانوں، خاندانی افراد اور بہترین نظام تربیت پر مشتمل ہو تو وہ بہترین معاشرہ کہلانے جانے کا مستحق ہے اور وہ اپنے تاریخی اور ثقافتی خزانوں اور ورثے کو بخوبی احسن اگلی نسلوں تک منتقل کرے گا اور ایسے معاشرے میں بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے۔ چنانچہ وہ ممالک اور معاشرے کہ جہاں خاندانی نظام مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہاں ثقافتی اور اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ۳

اگر موجودہ نسل اس بات کی خواہشمند ہو کہ وہ اپنی ذہنی اور فکری ارتقا، تجربات اور نتائج کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے اور ایک معاشرہ اپنے ماضی اور تاریخ سے صحیح معنی میں فائدہ حاصل کرے تو یہ صرف اچھے گھرانوں یا اچھے خاندانی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گھر کی اچھی فضا میں اس معاشرے کی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر ایک انسان اپنے تشخص کو پاتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو غیر مستقیم طور پر بغیر کسی جبر اور تصنع (بناوٹ) کے فطری اور طبیعی طور پر اپنے فکری مطالب، عمل، معلومات اور تمام مقدس امور کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ۱

۱ خطبہ نکاح 1998/3/3
 ۲ خطبہ نکاح 1998/4/15
 ۳ خطبہ نکاح 1998/4/15

خوشحال گھرانہ اور مطمئن افراد

اسلام ”گھرانے“ پر مکمل توجہ دیتا ہے اور گھرانے پر اس کی خاص الخاص نظر اپنے پورے اہتمام کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے خاندانی نظام یا گھرانے کو انسانی حیات میں مرکزیت حاصل ہے۔ اسی لیے اس کی بنیادوں کو کمزور یا کھوکھلا کرنے کو بدترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ ۲

اسلام میں گھرانے کا مفہوم یعنی ایک چھت کے نیچے دو انسانوں کی سکونت، دو مختلف مزاجوں کا بہترین اور تصوراتی روحانی ماحول میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، دو انسانوں کے انس و الفت کی قرار گاہ اور ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کے کمال اور معنوی ترقی کا مرکز، یعنی وہ جگہ کہ جہاں انسان پاکیزگی حاصل کرے اور اُسے روحانی سکون نصیب ہو۔ یہ ہے اسلام کی نظر اور اسی لیے اس مرکز ”گھرانے“ کو اتنی اہمیت دی ہے۔ ۳

قرآن کے بیان کے مطابق اسلام نے مرد و عورت کی تخلیق، ان کے ایک ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کا شریک حیات بننے کو میاں بیوی کیلئے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ ۴

قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ ”وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا“۔ ۵ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ قرآن میں دو مرتبہ ”سکون“ کی تعبیر آئی ہے۔ ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا“ ۶ خداوند عالم نے انسانی جوڑے کو اس کی جنس (انسانیت) سے ہی قرار دیا ہے۔ یعنی عورت کا جوڑا مرد اور مرد کا جوڑا عورت تاکہ ”لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا“ یعنی یہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے میاں یا بیوی سے آرام و سکون حاصل کرے۔ ۱

۱ خطبہ نکاح 2001/1/5
 ۲ خطبہ نکاح 2001/1/5
 ۳ خطبہ نکاح 2005/12/25
 ۴ خطبہ نکاح 1997/11/27 ۵ سورہ اعراف/ ۱۸۹ ۶ سورہ روم / ۲۱

یہ آرام و سکون دراصل باطنی اضطراب کی زندگی کے پر تلاطم دریا سے نجات و سکون پانے سے عبارت ہے۔ زندگی ایک قسم کا میدان جنگ ہے اور انسان اس میں ہمیشہ ایک قسم اضطراب و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے لہذا یہ سکون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ آرام و سکون انسان کو صحیح طور پر حاصل ہو جائے تو اُس کی زندگی سعادت و خوش بختی کو پالے گی، میاں بیوی دونوں خوش بخت ہو جائیں گے اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بغیر کسی نفسیاتی دباو اور الجھن کے پرورش پائیں گے اور خوش بختی اُن کے قدم چومے گی۔ صرف میاں بیوی کے باہمی تعاون، اچھے اخلاق و کردار اور پرسکون ماحول سے اس گھرانے کے ہر فرد کیلئے سعادت و خوش بختی کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ ۲

گھرانہ ، زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں

جب میاں بیویوں دن کے اختتام پر یا درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے ماحول کو خوش رکھنے، اُسے زندہ رکھنے اور تھکاوٹ اور ذہنی الجھنوں سے دور کر کے اُسے زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں اپنا اپنا کردار موثر طریقے سے ادا کیا ہوگا تو ان کی ایک دوسرے سے توقع بالکل بجا اور درست ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام کرسکیں تو حتماً انجام دیں کیونکہ اس سے زندگی شیریں اور میٹھی ہوتی ہے۔ ۳

انسانی زندگی میں مختلف ناگزیر حالات و واقعات کی وجہ سے طوفان اٹھتے رہتے ہیں کہ جس میں وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میاں بیویوں کا جوڑا اس طوفان میں ایک دوسرے کی پناہ لیتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے کر اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتی ہے اور مرد اپنی بیوی کی چاہت و فداکاری کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکھ کا سانس لیتا ہے۔ مرد اپنی مردانہ کشمکش والی زندگی میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کا ضرورت مند ہے تاکہ وہاں کی گھنی چھاؤں میں تازہ دم ہوکر دوبارہ اپنا سفر شروع کرے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں اُسے کب اور کہاں نصیب ہوگی؟ اس وقت کہ جب وہ اپنے گھر کی عشق و اُلفت اور مہربانی و محبت سے سرشار فضا میں قدم رکھے گا، جب وہ اپنی شریک حیات کے تیسم کو دیکھے گا کہ جو ہمیشہ اس سے عشق و محبت کرتی ہے، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں اُس کے ساتھ ساتھ ہے، زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کے حوصلوں میں پختگی عطا کرتی ہے اور اُسے ایک جان دو قالب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں۔ ۱

۱ خطبہ نکاح 1996/12/25 ۲ خطبہ نکاح 1997/7/22 ۳ خطبہ نکاح 1998/4/13

بیوی بھی اپنی روزمرہ کی ہزاروں جھمیلوں والی زنانہ زندگی میں (صبح ناشتے کی تیاری، بچوں کو اسکول کیلئے تیار کرنے، گھر کو سمیٹنے اور صفائی ستھرائی، دوپہر کے کھانے کی تیاری، بچوں کی اسکول سے آمد اور انہیں دوپہر کا کھانا کھلانے، سلانے، نماز ظہر و عصر، شام کی چائے، شوہر کی آمد اور رات کے کھانے کی فکر جیسی دیگر) دسیوں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ خواہ وہ گھر سے باہر کام میں مصروف ہو اور مختلف قسم کی سیاسی اور اجتماعی فعالیت انجام دے رہی ہو یا گھر کی چار دیواری میں گھریلو کام کاج میں عرق جبین بہا رہی ہو کہ اس کے اندرون خانہ کام کی زحمت و سختی اور اہمیت گھر سے باہر اُس کی فعالیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے!

ایک صنف نازک اپنی لطیف و ظریف روح کے ساتھ جب ان مشکلات کا سامنا کرتی ہے یہ تو اُسے پہلے سے زیادہ آرام و سکون اور ایک مطمئن شخص پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ اُس کے وفادار شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے! ۲

انسان کوئی گاڑی یا مشین تو نہیں ہے، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، وہ معنویت کا طالب ہے، وہ ہمدردی، مہربانی و فداکاری کے جذبات و احساسات کا نام ہے اور وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں آرام و سکون کا متلاشی ہے اور اُسے آرام و سکون صرف گھر کی ہی فضا میں میسر آسکتا ہے۔ ۳

گھر کے ماحول کو آرام دہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کیلئے موجود ہمدردی اور ایثار و محبت کے یہ احساسات اُن کے اندرونی سکون میں اُن کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس آرام و سکون کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کام کاج کو متوقف اور فعالیت کو ترک کر دے! نہیں، کام کاج اور فعالیت ضروری اور بہت اچھی چیز ہے۔ آرام و سکون کا تعلق دراصل انسانی زندگی کی مشکلات اور مسائل سے ہے۔

۱ خطبہ نکاح 2002/8/28 ۲ حوالہ سابق ۳ خطبہ نکاح 1989/2/8

انسان کبھی کبھی اپنی زندگی میں پریشان ہوجاتا ہے تو اُس کی بیوی یا شوہر اُسے سکون دیتا ہے۔ یہ سب اُسی صورت میں ممکن ہے کہ جب گھر کی فضا اور ماحول آپس کی چیقلش، لڑائی، جھگڑوں، باہمی نااتفاقی اور مشکلات کا شکار نہ ہو۔ ۱

اچھے گھر کا پرسکون ماحول

ہر انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی پوری زندگی میں شب و روز مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور غیر متوقع حالات و واقعات سے اس کی زندگی اضطراب کا شکار رہتی ہے۔ یہ حادثات و واقعات انسان کو اعصابی طور پر کمزور، خستہ تن اور اس کی روح کو بوجھل اور طبیعت و مزاج کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب انسان گھر کی خوشگوار فضا میں قدم رکھتا ہے تو اُس گھر کا روح افزا ماحول اور سکون بخش نسیم اُسے توانائی بخشتی ہے اور اُسے ایک نئے دن و رات اور نئے عزم و حوصلے کے ساتھ خدمت و فعالیت انجام دینے کیلئے آمادہ و تیار کرتی ہے۔ اسی لئے خاندانی نظام زندگی یا گھرانے، انسانی حیات کی تنظیم میں بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ گھر کو صحیح روش اور اچھے طریقے سے چلانا چاہیے۔ ۲

رشتہ ازدواج کے بندھن میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا اور گھر بسانا، میاں بیوی کیلئے زندگی کا سب سے بہترین ہدیہ اور سب سے اہم ترین زمانہ ہے۔ یہ روحانی آرام و سکون، زندگی کی مشترکہ جدوجہد کیلئے ایک دوسرے کو دلگرمی دینے، اپنے لیے نزدیک ترین غمخوار ڈھونڈھنے اور ایک دوسرے کی ڈھارس باندھنے کا ایک وسیلہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کیلئے اشد ضروری ہے۔ ۳

گھریلو فضا میں خود کو تازہ دم کرنے کی فرصت ایک گھر میں رہنے والے میاں بیوی جو ایک دوسرے کی زندگی میں شریک اور معاون ہیں، گھر کے پرفضا ماحول میں ایک دوسرے کی خستگی، تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار کرنے والی یکسانیت کو دور کر کے کھوئی ہوئی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو بحال اور اپنی ہمت کو تازہ دم کر کے خود کو زندگی کی بقیہ راہ طے کرنے کیلئے آمادہ کر سکتے ہیں۔

۱ خطبہ نکاح 2002/5/29
۲ خطبہ نکاح 1998/1/19 ۳ خطبہ نکاح 2001/2/29

آپ جانتے ہیں کہ زندگی ایک میدان جنگ ہے۔ پوری زندگی عبادت ہے ایک بڑی مدت والی جنگ سے، فطری و طبیعی عوامل سے جنگ، اجتماعی موانع سے جنگ اور انسان کی اپنی اندرونی دنیا سے جنگ کہ جسے جہاد نفس کہا گیا ہے۔ لہذا انسان ہر وقت اس حالت جنگ میں ہے۔ انسان کا بدن بھی ہر وقت جنگ میں مصروف عمل ہے اور وہ ہمیشہ مضر عوامل سے جنگ میں برسر پیکار ہے۔ جب تک بدن میں اس لڑائی کی قدرت اور قوت مدافعت موجود ہے آپ کا جسم صحیح و سالم ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ انسان میں یہ مبارزہ اور جنگ، درست سمت میں اپنی صحیح اور اچھی روش و طریقے اور صحیح عوامل کے ساتھ انجام پانی چاہیے۔

زندگی کی اس جنگ میں کبھی استراحت و آرام لازمی ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر اور مسلسل حرکت کا نام ہے اور اس طولانی سفر میں انسان کی استراحت گاہ اس کا گھر ہے ۱۔

دینداری، خاندان کی بقا کا راز اپنے گھر کو آباد کرنے اور اس کی حفاظت کیلئے اسلامی احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہے۔ لہذا آپ، دیندار گھرانوں میں کہ جہاں میاں بیوی اسلامی احکامات کا خیال رکھتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ سالہا سال مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور میاں بیوی کی محبت ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ باقی رہتی ہے، ہرگزرنے والا دن اُن کی چاہت میں اضافہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے جدائی اور فراق کا تصور بھی دونوں کیلئے مشکل ہو جاتا ہے اور اُن دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت و چاہت جو کسی گھرانے یا خاندان کو دوام بخشتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے ۲۔

اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور روش پر عمل درآمد کیا جائے تو ہمارا خاندانی نظام پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں طاغوتی دور حکومت میں جب لوگوں کا ایمان، سالم اور محفوظ تھا اور ہمارے گھرانے اور خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم تھے تو اس ماحول میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے اور گھر کے پرسکون ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے اور آج بھی صورتحال ہے۔ وہ گھرانے اور خاندان جو اسلامی احکامات اور آداب کا خیال رکھتے ہیں وہ غالباً دوسروں کی بہ نسبت زیادہ مضبوط و مستحکم اور بہتر ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں ۱۔

۱ خطبہ نکاح 2002/5/29

۲ خطبہ نکاح 2002/3/13

دینداری ، خاندان کی حقیقی صورت

اسلامی معاشرے میں میاں بیوی، زندگی کے سفر میں ایک ساتھ، ایک دوسرے سے متعلق ، ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار ، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے گھرانے کی حفاظت کے مسؤل اور جوابدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت کتنی ہے! ۲

اسلامی ماحول میں خاندان کی بنیادیں اتنی مضبوط اور مستحکم ہیں کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں دو نسلیں ایک ہی گھر میں زندگی گزار دیتی ہیں اور دادا، باپ اور بیٹا (پوتا) باہم مل کر ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں، یہ کتنی قیمتی بات ہے! نہ اُن کے دل ایک دوسرے سے بھرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کی نسبت بدبین و بدگمان ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ۳

اسلامی معاشرے میں یعنی دینی اور مذہبی فضا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک طویل عرصے تک باہم زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل نہیں اُکتاتے بلکہ ایک دوسرے کیلئے اُن کی محبت و خلوص زیادہ ہوجاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کیلئے اُن کی اُلفت، اُنس اور چاہت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ سب آثار ، دینداری ، مذہبی ہونے اور خداوند عالم کے بتائے ہوئے احکامات اور آداب اسلامی کی رعایت کرنے کا ہی نتیجہ ہیں۔ ۴

اسلام اور اسلامی ثقافت و تمدن میں خاندان کو دوام حاصل ہے۔ گھر میں دادا، دادی اور ماں باپ سبھی تو موجود ہیں جو اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر جوان کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آداب و رسوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں اور پچھلی نسل اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں بحفاظت تھماتی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک دوسرے کٹ کر رہنے ، تنہائی اور عزت نشینی اختیار کرنے اور مہربانی و محبت سے عاری سلوک روا رکھنے کے تمام دروازے اس گھر کے تمام افراد کیلئے بند ہیں ۵

۱ خطبہ نکاح 1998/4/4

۲ خطبہ نکاح 1992/9/9

۳ خطبہ نکاح 1993/1/10

۴ خطبہ نکاح 2001/3/23 ۵ خطبہ نکاح 1995/8/15

عورت ، گوہر ہستی

دوسری فصل

اسلامی تعلیمات میں مذہبی گھرانے کے خدوخال

مذہبی گھرانہ، دنیا کیلئے ایک آئیڈیل

الحمد للہ ہمارے ملک اور مشرق کے مختلف معاشروں میں خصوصاً اسلامی معاشروں میں گھرانے اور خاندان کی بنیادیں ابھی تک محفوظ ہیں اور خاندانی روابط تعلقات ابھی تک برقرار ہیں۔ آپس میں محبت، خلوص، دلوں کا کینہ و حسد سے خالی ہونا ابھی تک معاشرے میں موجود ہے۔ بیوی کا دل اپنے شوہر کیلئے دھڑکتا ہے جبکہ مرد کا دل اپنی بیوی کیلئے ہے

قرار رہتا ہے، یہ دونوں دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو چاہنے والے اور عاشق ہیں اور دونوں کی زندگی میں پاکیزگی و نورانیت نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اسلامی ممالک خصوصاً ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں زیادہ ہیں لہذا ان کی حفاظت کیجئے۔ ۱

دو مختلف نگاہیں مگر دونوں خوبصورت

فطری طور پر مرد کے بارے میں عورت کی سوچ، مرد کی عورت کے بارے میں فکر و خیال سے مختلف ہوتی ہے اور اُسے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی عیب اور مضائقہ نہیں ہے۔ مرد، عورت کو ایک خوبصورت، ظریف و لطیف اور نازک و حساس وجود اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اسلام بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ ”الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ؟“، یعنی عورت ایک نرم و نازک اور حسین پھول ہے، یہ ہے اسلام کی نظر۔ عورت، نرم و لطیف اور ملائم طبیعت و مزاج سے عبارت ہے جو زیبائی اور لطافت کا مظہر ہے۔ مرد، عورت کو انہی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی محبت کو اسی قالب میں مجسم کرتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی عورت کی نگاہوں میں اُس کے اعتماد اور بھروسے کا مظہر اور مضبوط تکیہ گاہ ہے اور بیوی اپنی محبت اور دلی جذبات و احساسات کو ایسے مردانہ قالب میں سموتی اور ڈھالتی ہے۔

۱ خطبہ نکاح 1997/7/22

زندگی کی اس مشترکہ دوڑدھوپ میں مرد و عورت کے یہ ایک دوسرے سے مختلف دو کردار ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح اور لازمی ہیں۔ عورت جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اپنی چشم محبت و عشق سے اس کے وجود کو ایک مستحکم تکیہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ جو اپنی جسمانی اور فکری صلاحیتوں اور قوت کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے اور اُس کی ترقی کیلئے بروئے کار لاتا ہے۔ مرد بھی اپنی شریکہ حیات کو اُنس و اُلفت کے مظہر، ایثار و فداکاری کی جیتی جاگتی اور زندہ مثال اور آرام و سکون کے مخزن کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ جو شوہر کو آرام و سکون دے سکتی ہے۔ اگر مرد زندگی کے ظاہری مسائل مینعورت کا تکیہ گاہ اور اُس کے اعتماد و بھروسے کا مرکز ہے تو بیوی بھی اپنی جگہ روحانی سکون اور معنوی امور کی وادی کی وہ باد نسیم ہے کہ جس کا لطیف احساس انسان کی تھکاوٹ و خستگی کو دور کر دیتا ہے۔ گویا وہ اُنس و محبت، چاہت و رغبت، پیار و اُلفت اور ایثار و فداکاری کا موجیں مارتا ہوا بحر بیکراں ہے۔ یقیناً شوہر بھی محبت، سچے عشق اور پیار سے سرشار ایسی فضا میں اپنے تمام غم و اندوہ، ذہنی پریشانیوں اور نفسیاتی الجھنوں کے بار سنگین کو اتار کر اپنی روح کو لطیف و سبک بنا سکتا ہے۔ یہ ہیں میاں بیوی کی روحی اور باطنی قدرت و توانائی۔ ۱

حقیقی اور خیالی حق

کسی بھی قسم کے ”حق“ کا ایک فطری اور طبیعی منشا سبب ہوتا ہے، حقیقی اور واقعی حق وہ ہے کہ جو کسی فطری سبب سے جنم لے۔ یہ حقوق جو بعض محفلوں ۲ میں ذکر کیے جاتے ہیں، صرف توہمات اور باطل خیالات کا پلندا ہیں۔ مرد و عورت کیلئے بیان کیے جانے والے حقوق کو اُن کی فطری تخلیق، طبیعت و مزاج اور ان کی بدنی طبیعی ساخت کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے۔ ۳

آج دنیا کے فیمنسٹ (Femuinism) یا حقوق نسواں کے ادارے کہ جو ہر قسم کے مرد و عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، حقوق نسواں کے دفاع کے نعرے سے سامنے آتے ہیں۔ میری نظر میں یہ لوگ حقوق نسواں کی الف ب سے بھی واقف نہیں ہیں کیونکہ حق و حقوق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہیں گڑھا یا اختراع کیا جاسکے اور ان کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہ ہو بلکہ ان سب حقوق کا ایک فطری منشا و سبب ہے۔ ۱

۲ اشارہ ہے حقوق نسواں، انسانی حقوق کے کمیشن اور مختلف ممالک میں ان کے ذیلی اداروں اور NGO کے بے بنیاد فرضیوں اور ایجنٹوں کی جانب جو از خود مرد و عورت کیلئے حقوق اختراع کرتے پھرتے ہیں۔ (مترجم) ۳ خطبہ نکاح

1999/3/12

خوش بختی کا مفہوم

خوش بختی عبارت ہے روحی آرام و سکون ، سعادت اور امن کے احساس سے ۲۔ بڑے بڑے فنکشن اور اسراف و فضول خرچی کسی کو خوش بخت نہیں بناتے۔ اس طرح مہر کی بڑی بڑی رقمیں اور جہیز کی بھر مار بھی انسانی سعادت و خوش بختی میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ صرف شریعت ہی کی پابندی ہے کہ جو انسان کو خوش بخت بناتی اور سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ ۳

ایک دوسرے کو جنتی بنائے

شادی اور شریک حیات کا انتخاب انسانی قسمت میں کبھی موثر کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو جنتی بناتے ہیں اور صورتحال اس کے برعکس بھی پیش آتی ہے۔ اگر میاں بیوی اس اہم مرکز ”گھر“ کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کے قائل ہوں تو ان کی زندگی امن و سکون کو گواہ بن جائے گی اور اچھی شادی کی برکت سے انسانی کمال کا حصول میاں بیوی کیلئے آسان ہو جائے گا۔ ۴

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد زندگی میں ایسے دوراں پر جا پہنچتا ہے کہ جس میں ایک راہ کا انتخاب اُس کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دنیا یا صحیح راہ اور امانت داری و صداقت میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ یہاں اس کی بیوی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اُسے پہلے یا دوسرے راستے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہوتی ہے کہ شوہر حضرات بھی اپنی شریک حیات کیلئے موثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ سعی کیجئے کہ آپ دونوں اچھی راہ کے انتخاب میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔

آپ کوشش کریں کہ دینداری ، خدا اور اسلام کی راہ میں قدم اٹھانے ، حقیقت ، امانت اور صداقت کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھنے کیلئے ایک دوسرے کی مدد کریں اور انحراف اور لغزش سے ایک دوسرے کی حفاظت کریں ۲۔

۱ حوالہ سابق

۲ خطبہ نکاح 2006/6/20

۳ خطبہ نکاح 1996/5/30

۴ خطبہ نکاح 1996/5/30

۵ خطبہ نکاح 2001/3/12

اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل اور اس کے بعد ابتدائی سخت سالوں اور جنگ کے مشکل زمانے میں بہت سی خواتین نے اپنے صبر و تعاون سے اپنے شوہروں کو جنتی بنالیا۔ مرد مختلف قسم کے محاذوں پر گئے اور انہوں نے گونا گوں قسم کی مشکلات اور خطرے کو مول لیا، یہ خواتین گھروں میں تنہا رہ گئیں اور انہوں نے تنہا مشکلات کا مقابلہ کیا لیکن زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہیں لائیں اور یوں انہوں نے شوہروں کو بہشت بریں کا مسافر بنایا۔ جبکہ وہ ایسا بھی کر سکتی تھیں کہ ان کے شوہر میدان جنگ جانے اور جنگ کرنے سے پشیمان ہو جائیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور صبر کادامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بہت سے ایسے شوہر تھے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو جنت کا راہی بنایا۔ ان کی ہدایت ، تعاون ، دستگیری اور مدد سے یہ خواتین اس قابل ہوئیں کہ خدا کی راہ میں حرکت کر سکیں۔

صورتحال اس کے برعکس بھی ہے۔ بہت سی خواتین اور مرد ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو جہنمی بنایا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو جنتی اور سعادت مند بنائیں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ تحصیل علم، کمال کے حصول ، پربیز گاری ، تقویٰ کے ساتھ سادہ زندگی گزارنے کیلئے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ۱

ایک دوسرے کو خوش بخت کیجئے

بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کو جنتی اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو حقیقتاً سعادت مند بناتے ہیں جبکہ اس کے برخلاف بھی صورتحال تصور کی جاسکتی ہے۔ ممکن ہے کہ مرد اچھے ہوں لیکن اُن کی بیویاں انہیں اہل جہنم بنا دیں یا بیویاں اچھی اور نیک ہوں مگر اُن کے شوہر انہیں راہ راست سے ہٹادیں۔ اگر میاں بیوی ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں تو اچھی

باتوں کی تاکید ، بہترین انداز میں ایک دوسرے کی اعانت و مدد اور گھر کی فضا میں دینی اور اخلاقی احکامات کو زبانی بیان کرنے سے زیادہ اگر عملی طور پر ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں اور ہاتھ میں ہاتھ دیں تو اس وقت ان کی زندگی کامل اور حقیقتاً خوش بخت ہوگی۔ ۲

۱ خطبہ نکاح 2000/3/13 ۲ خطبہ نکاح 1998/3/2

ایک مرد اپنی ہمدردانہ نصیحتوں ، راہنمائی ، وقت پر تذکر دینے اور اپنی بیوی کی زیادہ روی ، زیادتی اور اس کے بعض انحرافات کا راستہ روک کر اُسے اہل جنت بنا سکتا ہے۔ البتہ اُس کے برعکس بھی اس کی زیادتی ، بوس ، بے جا توقعات اور غلط روش کی اصلاح نہ کرتے ہوئے اُسے جہنمی بھی بنا سکتا ہے۔ ۱

حق بات نصیحت اور صبر کی تلقین

میاں بیوی کے دلوں کے ایک ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ ، یعنی حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔

اگر بیوی دیکھے کہ اُس کا شوہر انحراف کا شکار ہو رہا ہے ، ایک غیر شرعی کام انجام دے رہا ہے یا رزق حرام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور غیر مناسب دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے تو سب سے پہلے جو اُسے تمام خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے ، وہ اس کی بیوی ہے۔ یا اگر مرد اپنی بیوی میں اس قسم کی دوسری برائیوں کا مشاہدہ کرے تو اُسے بچانے والوں میں سب سے پہلے اس کا شوہر ہوگا۔ البتہ ایک دوسرے کو برائیوں سے بچانا اور خطرات سے محفوظ رکھنا محبت ، میٹھی زبان ، عقل و منطق کے اصولوں کے مطابق ، حکیمانہ اور مدبرانہ رویے کے ذریعے سے ہو نہ کہ بداخلاقی اور غصے وغیرہ کے ذریعے۔ یعنی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں تاکہ وہ راہ خدا میں ثابت قدم رہیں۔ ۲

ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور مدد کریں خصوصاً دینی امور میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر یا بیوی نماز کی چور ہے ، دونوں میں کوئی ایک نماز کو کم اہمیت دیتا ہے ، سچ بولنے یا نہ بولنے میں اُسے کوئی فرق نہیں پڑتا ، شوہر لوگوں کے مال میں بے توجہی سے کام لیتا ہے اور اپنے کام سے غیر سنجیدہ ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ اُسے خواب غفلت سے بیدار کریں ، اُسے بتائیے ، سمجھائیے اور اس کی مدد کیجئے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔

اگر آپ دیکھیں کہ وہ محرم و نامحرم ، پاک و نجس اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور اُن سے بے اعتنائی برتتا ہے تو آپ اُسے متوجہ کریں ، اُسے تذکر دیں اور اُس کی مدد کریں تاکہ وہ بہتر اور اچھا ہو جائے۔ یا وہ جھوٹ بولنے یا غیبت کرنے والا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اُسے سمجھائیے نہ کہ اُس سے لڑیں جھگڑیں ، نہ کہ اپنے گھر کی فضا خراب کریں اور نہ اس شخص کی مانند اسے زبانی نصیحت کریں جو الگ بیٹھ کر صرف زبانی تنقید کے نشتر چلاتا ہے۔ ۳

۱ خطبہ نکاح 1999/9/20

۲ خطبہ نکاح 2000/11/12

۳ خطبہ نکاح 1995/9/4